



خاتونِ اسلام

(المرأة المسلمة)

تأليف
فضيلة الشيخ اليكبر الجزايري

ترجمه
سعيد احمد قمر الزمان

المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد بالبديعة والصناعية الجديدة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ص.ب: ٢٤٩٣٢ الرياض ١١٤٥٦ - البديعة: تلفون ٤٣٣٠٨٨٨ (أربعة خطوط)
الصناعية: تلفون ٤٣٠٣٥٧٢ - فاكس ٤٣٠١١٢٢ المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم
خواتین اسلام کے لئے بہترین لائحہ عمل

خاتونِ اسلام

(المرأة المسلمة)

تالیف
فضیلتہ الشیخ ابوبکر الجزائری
ترجمہ
سعید احمد قمر الزمان

المکتب التعاونی للدعوة والارشاد بالبديعة، الرياض

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة، ١٤١٩هـ

ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الجزائري، أبو بكر بن جابر

المرأة المسلمة / ترجمة سعيد قمر الزمان . - الرياض .

٢٢٤ ص ؛ ٢٠١٤ سم

ردمك : ١-٣٠-٧٩٩-٩٩٦٠

(النص باللغة الأردنية)

١- المرأة في الإسلام

أ- قمر الزمان، سعيد (مترجم) ب- العنوان

١٩/٢٤٣٣

ديوي ٢١٩,٩

رقم الإيداع : ١٩/٢٤٣٣

ردمك : ١-٣٠-٧٩٩-٩٩٦٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد:

عورت کو دنیا نے جس نگاہ سے دیکھا، وہ مختلف علاقوں میں مختلف رہی، علماء یورپ میں مدتوں تک یہ سوال زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں، روما اس کو گھر کا اثاثہ سمجھتا تھا اور وہ وراثت کی طرح ورثاء میں منقل ہوتی تھی، یونانی اس کو شر اور شیطان کی بیٹی اور آلہء کار کہتے تھے، یہودی اس کو لعنت ابدی کا مستحق اور جہنمی قرار دیتے تھے، عیسائی اس کو باغ انسانیت کا کاٹا اور شجرہ ممنوعہ سمجھتے تھے اور ان کی حکومت رومہ الکبریٰ میں عورتوں کی حالت لونڈیوں سے بدتر تھی، ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا، اور بقول مشہور دانشور اسپرنگر نولاکھ عورتوں کو یورپ میں عیسائیوں نے زندہ جلادیا تھا، رومن کیٹھولک فرقہ کی تعلیمات کے رو سے عورت کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی تھی اور گرجا گھر میں داخل نہ ہو سکتی تھی۔

دور جاہلیت میں لڑکیوں کی ولادت کے بعد انھیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور ان کو اپنے لئے عار و ذلت سمجھا جاتا تھا، ہندو مذہب میں ویدوں کی تعلیم کا

دروازہ عورت کے لئے بند تھا۔ اور شوہر کے مرنے کے بعد اسے بھی شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اسی طرح ایران و چین میں عورت انتہائی جبر و استبداد اور ظلم و ستم سے دوچار تھی۔

لیکن دین اسلام نے عورتوں کو اس ذلت و پستی سے اٹھا کر عزت و شرف و منزلت کے بام عروج پر پہنچا دیا اور اسلام کا نقطہء نظر اس سے یکسر مختلف ہے، وہ اسے چہرہ انسانیت کی زینت، مردوں کے لئے شریکہ حیات اور باعث الفت و سکینت اور نسیمہ اخلاق کی نکت، تصور کرتا ہے اور ان تمام فضائل و مسائل میں اسے حصہ دار بنا دیتا ہے جسے مرد حاصل کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتا ہے کہ عورت بھی ویسی ہی انسان ہے جیسا مرد ہے:

" خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجا "

(النساء: ۱) اللہ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی کی جنس اس کے جوڑے سے پیدا کیا۔

اسلام کی نگاہ میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں دونوں کو اپنے اپنے عمل کا اجر ملے گا:

" للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن " (النساء: ۵)

مرد جیسے عمل کریں ان کا وہ پھل پائیں گے اور عورتیں جیسے عمل کریں ان کا وہ پھل پائیں گی۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ روحانی ترقی کے جو درجات مرد کو مل سکتے ہیں وہی عورت کے لئے بھی کھلے ہوئے ہیں اور اسے بھی

اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے حصول کی ترغیب اور حیات طیبہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔

” من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ” (النحل : ۹۷)
 جو شخص بھی نیک عمل کرے گا ، خواہ مرد ہو یا عورت ، بشرطیکہ ہو وہ مؤمن ، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو اسکے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے ۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے عورت کو ذلت اور عار کے مقام سے اٹھا کر عزت و منزلت کے مقام پر پہنچایا اور اسے متاع حیات کی بہترین چیز قرار دیا ہے ، ارشاد ہے : الدنيا حلوة خضرة وخير متاعها المرأة الصالحة ” دنیا ایک شیریں و سبز و شاداب شے ہے لیکن اس میں سب سے بہترین نعمت نیک عورت ہے ۔

اسلام نے عورت کو جو وسیع دینی تعلیمی معاشرتی و اخلاقی حقوق دئے ہیں اور عزت و شرف و منزلت کے جو اعلیٰ مراتب خواتین کے ہر طبقہ کو دئے ہیں ان کی نظیر کسی قدیم و جدید معاشرتی نظام میں نہیں ملتی۔ چنانچہ یہ حقوق کبھی ماں کی حیثیت سے تو کبھی بیٹی کی حیثیت سے تو کبھی بیوی کی حیثیت سے تو کبھی بہن کی حیثیت سے دئے ہیں ، حدیث میں ہے : الجنة تحت اقدام الامهات ، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ماں کی خدمت کو جہاد پر ترجیح دی ہے اور ماں کی نافرمانی کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے ۔

حدیث میں ہے : جس کی لڑکیاں پیدا ہوں اور اچھی طرح ان کی پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لئے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے (مسلم)

اسی طرح ارشاد ہے : جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئیں تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں (مسلم)

حدیث میں ہے : دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے (نسائی)

دوسری طرف قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں عورتوں کے حقوق کی رعایت اور ان سے حسن سلوک کی جگہ جگہ تاکید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے " وعاشروهن بالمعروف " عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

" ولهن مثل الذی علیهن " عورت پر جیسے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں .

حدیث میں ہے : دنیا کی چیزوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب عورتیں اور خوشبو ہیں ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے . (نسائی)

یوم عرفہ کے مشہور تاریخی خطبہ میں بھی آپ نے عورتوں کو فراموش نہیں کیا اور فرمایا : لوگوں عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لئے کہ تم نے ان کو اللہ کے نام کے واسطے سے حاصل کیا ہے . اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر مردوں کو عورتوں کے ساتھ ادائے حقوق ، حسن سلوک ، اور بہتر معاشرت کی ترغیب دی ہے .

عورتوں کو دینی اور دنیوی علوم سیکھنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ

ان کی تعلیم و تربیت کو اس قدر ضروری قرار دیا گیا ہے جس قدر مردوں کی تعلیم و تربیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و اخلاق کی تعلیم جس طرح مرد حاصل کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی کرتی تھیں، آپ نے ان کے لئے اوقات معین فرمائے تھے جن میں وہ حاضر ہو کر آپ سے علم حاصل کرتی تھیں، آپ کی ازواج مطہرات اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی معلمہ تھیں اور بڑے بڑے صحابہ کرام و تابعین عظام ان سے حدیث تفسیر و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

اشراف تو درکنار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لونڈیوں تک کو علم و ادب سکھانے کا حکم فرمایا ہے، ارشاد ہے: جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو خوب تعلیم دے اور عمدہ تہذیب و ادب سکھائے پھر اس کو آزاد کر کے شادی کر لے اس کے لئے دوہرا اجر ہے (بخاری)

قرون اولیٰ میں عورتوں نے مردوں کی طرح اسلامی علوم و فنون کے حصول اور اس کی نشرو و اشاعت میں گرانقدر خدمات انجام دی ہیں، چنانچہ سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے کی سعادت ایک خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حصہ میں آئی۔ اور اسلام میں سب سے قبل جام شہادت نوش کرنے کا شرف بھی ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوا، اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کا باعث بھی ایک خاتون ان کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بن خطاب کی دعوت و استقامت ہے۔

یہ ہے وہ قدر و منزلت، جسے عورت نے اسلامی شریعت کے تحت حاصل

کیا . اور یہ ہے وہ اسلامی تعلیم جس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لئے لازمی ہے .
 اسلامی نقطہ نظر سے عورت کی صحیح تعلیم و تربیت وہ ہے جو اس کو ایک
 بہترین بیوی ، بہترین ماں ، اور بہترین گھروالی بنائے ، اس کا اصل دائرہ عمل
 گھر ہے . اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان علوم و فنون کی تعلیم دی جانی چاہئے جو
 اس دائرہ میں اسے زیادہ مفید بنا سکے اور ضمناً وہ علوم و فنون بھی حاصل کر سکتی
 ہے جو اس کے اور معاشرہ کے لئے مفید ہوں ، بشرطیکہ موزوں و مناسب ماحول
 میں حاصل کئے جائیں اور ایسے ہی ماحول میں انجام دئے جائیں اور ان حدود سے
 تجاوز نہ کرے جو شریعت نے عورتوں کے لئے مقرر کئے ہیں .

آج ہر سو حقوق نسواں کا چرچا ہے ، اور عورت کو ہر شعبہ حیات میں
 مردوں کے مساوی حقوق دینے کی مہم زور و شور سے جاری ہے ، سوسائٹیاں قائم
 ہو رہی ہیں کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں اور انہیں چراغ خانہ سے شمع محفل بنا سکی
 کوشش ہو رہی ہے ، اور عورتوں نے عزم مردانہ کے ساتھ ہر شعبہ زندگی میں
 مردوں کے دوش بدوش دوڑنے کا تہیہ کر لیا ہے ، کیا ان تحریکوں سے عورتوں
 کو جائز حقوق ملے ان کی عزت اور شرف میں اضافہ ہوا ، ہرگز نہیں ، بلکہ انہیں
 مزید ہوا وہوس کا شکار بنایا گیا اور یہ نام نہاد حقوق اسی وقت تک محدود رہتے ہیں
 جب تک عورت نوجوان رہتی ہے لیکن جب وہ یوٹھی ہو جاتی ہے تو کسمپرسی کی
 حالت میں گوشہء گمنامی میں ڈال دیا جاتا ہے ، اور اس کے سارے حقوق نسواں
 نسیا کر دئے جاتے ہیں .

دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے ایسے وقت میں جب

عورت حقیقتاً غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی ، ایک انقلاب عظیم برپا کیا ، اسے زبردست حقوق و مراعات سے نوازا اور بنی نوع انسانی میں طبقہ ء نسوان کا درجہ بلند کیا ، آج حقوق نسواں اور تعلیم نسواں اور بیداری خواتین کے جو الفاظ سننے جا رہے ہیں ، یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی بازگشت ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بلند ہوئی تھی اور جس نے افکار انسانی کا رخ ہمیشہ کے لئے بدل دیا . حقیقت تو یہ ہے کہ اگر مسلمان خواتین کے بارے میں اسلامی تعلیم پر مکمل عمل کیا جائے تو خواتین کو ان حقوق سے بہت زیادہ حقوق مل جائیں گے جن کا وہ آج مختلف پلیٹ فارموں سے اپنے لئے مطالبہ کر رہی ہیں .

آج ہمارا معاشرہ اسلام کا مدعی ہوتے ہوئے ، روز بروز اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے ، اور زندگی کے ہر شعبہ میں بے دینی اور بد اخلاقی ، بے راہ روی جگہ پکڑتی جا رہی ہے ، ٹیلیویژن اور فحش لٹریچر کی کثرت ، پورے معاشرہ کو اپنی گرفت میں لے کر ان کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں ، اسلامی عقائد اور تعلیمات میں شک و شبہات پیدا کئے جا رہے ہیں ، گھر سے باہر اسکول اور کالجوں میں ذہنوں کو مسموم اور اسلام سے دور کیا جا رہا ہے .

ان مذکورہ بالا صورتحال میں ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں ، اور ان منکرات اور فواحش اور ان کے اسباب اور وسائل کے دفاع اور انسداد کے لئے غیر معمولی جدوجہد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے ، اور ان کا متبادل پیش کرنا وقت و زمانہ کا اہم تقاضہ ہوتا جا رہا ہے ، وہ یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات اور

دینی اقدار ، اخلاقی آداب کو مختلف وسائل اور اسالیب سے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور دعوت دین کو اپنا مقصد حیات بنائیں ، یوں تو پورے معاشرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن خصوصیت کے ساتھ اصلاح خواتین پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ، کیونکہ ماں کی گود ہر بچے کی سب سے پہلی درسگاہ اور تربیت گاہ ہے ، زیر نظر کتاب " خاتون اسلام " اسی سلسلہ کی کامیاب کوشش ہے ، جسکے مصنف علامہ شیخ ابوبکر الجزائری حفظہ اللہ عالم اسلام کے مشہور مفکر داعی ، اور عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی ، جامعہ اسلامیہ ، مدینہ منورہ کے سینئر استاذ اور مسجد نبوی کے ممتاز مدرس اور مبلغ ہیں ، موصوف محترم نے بڑی خوبی اور خوش اسلوبی سے اسلامی تعلیمات کو جمع فرمایا ہے ، اور خاتون اسلام کو دینی اور ذہنی جن جن باتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے اسے غیر معمولی جامعیت سے یکجا کر دیا ہے ۔

کتاب کی اسی جامعیت اور خوبیوں کے پیش نظر یہ خواہش ہوئی کہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا جائے تاکہ اردو قارئین و خواتین اس کی افادیت سے محروم نہ رہیں ۔

آج بڑی مسرت و خوشی سے اس کا اردو ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے ، اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ اسے ہمارے اور تمام خواتین کے لئے مفید بنائے اور شرف قبولیت سے نوازے ، اور اپنی تمام دینی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا نمونہ و لائحہ عمل بنائیں اسوقت انہیں معلوم ہوگا کہ دینداری اور خدا ترسی ، پرہیزگاری ، عفت و عصمت اور صلح و تقویٰ کے ساتھ وہ دنیا کو کیونکر نباہ

سکتی ہیں ، اور دنیا و آخرت دونوں کی نیکیوں کو اپنے آنچل میں کیسے سمیٹ سکتی ہیں .

اللہ رب العزت ، اس معمولی کوشش کو ذریعہ نجات بنائے . (آمین)

سعید احمد قر الزماں ندوی

المنامہ ، دولة البحرین .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

الحمد لله الذي لم يخلق الانسان عبثاً (۱) ، ولم يتركه سدى (۲) ، بل خلقه ليذكره وكلفه ليشكره . اناط سعادته وكمال بطاعته ، وربط شقاءه وخسرانه بمعصيته .

والصلاة والسلام على نبينا محمد عبدالله ورسوله ، الداعي الى الله ، والهادي الى صراطه والترضى الكامل على آله ، وصحابته وخلفائه في دعوته ، وامانه على ملته ، والترحم التام على تابعيهم وسالكي سبيلهم في الايمان والاسلام والاحسان .

وبعد:

زیر نظر کتاب "خاتون اسلام" ان تمام تعلیمات پر مشتمل ہے جن کا ایک

-
- (۱) اللہ تعالیٰ کے ارشاد : اھسبتم انما خلقناکم عبثاً وانکم الینا لاترجعون (المومنون ۱۱۵) سے ماخوذ ہے ، ہاں تو کیا تمہارا خیال تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بلا مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹا کر لائے نہ جاؤ گے .
- (۲) اللہ تعالیٰ کے ارشاد : ایحسب الانسان ان یترک سدی (القیامہ : ۳۶) سے ماخوذ ہے ، کیا انسان اس خیال میں ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا .

مسلمان خاتون کو اپنے دینی امور خواہ وہ عقیدہ و عبادات یا وہ معاملات ، آداب و اخلاقیات سے متعلق ہوں جاننا ضروری ہے ، ہم نے اسے آسان اسلوب اور واضح عبارتوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے ، تاکہ ایک مسلمان خاتون وہ سب کچھ حاصل کر لے جو اسے دوسری چیزوں سے مستغنی کر دے ، اور وہ اپنے دینی امور کی ان اہم باتوں کو سیکھ لے جو اس کے لئے کافی و شافی ہو جائیں ، اور ہم کو اس کا احساس ہے کہ ایک مسلمان خاتون کو ان تعلیمات کی کتنی سخت ضرورت ہے ، اور ساتھ ہی اس کا بھی اندازہ ہو کہ عورتوں کے لئے اس کتاب کی طرح کوئی جامع اور صحیح کتاب کسی اور نے تالیف کی ہو نظروں سے نہیں گزری .

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے نفع بخش بنائے اور ہمیں اجر و ثواب سے نوازے ، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے .

اور مزید اپنا صلۃ و سلام اور برکتیں و رحمتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر اور ان کے پاکیزہ اہل خانہ اور تمام صحابہ کرام پر .

ایک ضروری واہم انغباہ

ساری تعریف اللہ کے لئے ہے .

خاتونِ اسلام اپنی جان کو جہنم سے بچائیے اور یاد رکھئے کہ آپ حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتیں حالانکہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا: اپنی جان کو جہنم سے بچاؤ، میرے مال میں سے جو کچھ چاہے سوال کرو، کیونکہ میں اللہ کے یہاں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ (۱)

خاتونِ اسلام: میں آپ کو ڈراتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جہنم پیش کی گئی تو آپ نے اس میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ (۲)

(۱) بروایت صحیح مسلم ۱-۱۳۳ مختلف الفاظ سے .

(۲) بخاری میں ہے کہ: میں نے جہنم کو دیکھا اس سے زیادہ بھیساک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس میں زیادہ تر عورتیں نظر آئیں، صلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس وجہ سے ایسا ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ناکبری اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور زندگی بھر کے احسان کو فراموش کر دیتی ہیں اگر تھوڑی سی (کمی) دیکھ لیتی ہیں، تو کتنی ہیں کہ میں نے تم سے کبھی بھی بھلائی نہ دیکھی، بخاری ۲/۲۲ باب الکسوف

اور میں آپ کو توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہوں کہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے " دنیا کے (فتنہ) سے بچو اور عورتوں کے (فتنہ) سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں ہی سے اٹھا تھا" (۱)

مجھے اجازت دیجئے کہ عورتوں کے فتنہ کی ایک مثال بیان کروں، مجھ سے ایک سچے شخص نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک عورت نے اپنے شوہر کو اٹھارہ ہزار سعودی ریال کا لباس لانے پر مجبور کیا، اور اس نے اس کے لئے خرید لیا تھا۔

اللہ کی بندی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے کے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور یقین رکھئے کہ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہیں، لہذا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے، یہ یقین جاتے آپ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں۔

اگر ان پہاڑوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائیں گے، آپ کی حیثیت تو ان مضبوط پہاڑوں اور اونچی چوٹیوں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔

(۱) رواہ مسلم (۸۹/۸)

خاتون اسلام : اپنے کو جہنم کی آگ سے بچائیے کیونکہ ذہوی زندگی کی آرام و آسائش کم اور مختصر ہے اور اخروی زندگی بہتر اور پاکیزہ ہے، لہذا اپنے مال و جمال اور مردوں پر اترائیے نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کام نہیں آنے والی ہیں، اس لئے میں چھ دو بارہ کہتا ہوں، اپنے کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اور یہ یقین رکھئے کہ آپ کی نجات و سعادت کا راستہ وہی ہے جو آپ کے لئے اس کتاب "خاتون اسلام" میں بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کا مطالعہ کیجئے اور اس میں غور و فکر کیجئے اور اس کے مطابق عمل صالح کیجئے، انشاء اللہ سعادت و نجات آپ کو نصیب ہوگی حالانکہ میں آپ کو بار بار ڈراچکا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے کو لعنت و ملامت کیجئے گا۔

زیر نظر کتاب ہر ان تعلیمات پر مبنی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا ہے، خواہ وہ عقائد و عبادات سے متعلق ہوں یا اخلاق و آداب سے، اسی طرح ان ہدایات پر مشتمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے، خواہ ان کا تعلق شریکیات یا دیگر تمام قولی و فعلی حرام کردہ چیزوں سے ہو۔

لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد اور مغفرت کے طلب گار بنئے اور علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہوئیے، صبر سے کام لیتی رہئے تا آنکہ آپ کا عقیدہ و آپ کی عبادت و اخلاق و آداب پایہ تکمیل کو پہنچ جائے آپ دار ابرار جنت کی مستحق نہ ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے نجات نہ پا جائیں۔

اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ خواہش پوری فرمائے۔ (آمین)

خاتون اسلام کا عقیدہ :

مسلمان خاتون کو ان باتوں پر صدق دل سے ایمان لانا چاہئے اور اس کا یقین رکھنا چاہئے کہ یہ عقائد حق ہیں جس میں باطل کا کوئی شائبہ نہیں ہے .
خاتون اسلام ، اس پر ایمان و یقین رکھئے کہ جس ذات پاک نے آپ کو اور ساری علوی و سفلی کائنات کو ، زمین کے ایک ایک ذرہ سے لے کر آسمان کے سارے طبقات تک ، اور دونوں کے درمیان جو کچھ بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ، نباتات ہوں یا جمادات ، پیدا فرمایا ہے .

وہ آپ کا اور آپ کی ارد گرد تمام چیزوں کا خواہ وہ آپ کے اوپر ہوں یا نیچے ، جس کا آپ علم و ادراک رکھتی ہوں یا نہیں ، پروردگار ہے ، اور وہی ذات پاک سارے جہاں کا رب ہے جسے ہم " اللہ " جل شانہ سے یاد کرتے ہیں ، جس کے معنی " ایسے معبود برحق کے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے . ساری مخلوقات اس کو معبود تسلیم کرتی ہے یعنی اس کی عبادت کرتی ہے اس سے محبت خوف و خشیت اختیار کرتی ہے (۱)

(۱) اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے اوامر کے امتثال اور اس کے مقاصد کو پورا کر کے ہوتی ہے . جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے . جسے وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتی . (بقیہ صفحہ ۱۸ پر ===)

اگر آپ سے کوئی یہ کہے یا شیاطینِ انس و جن میں سے کوئی یہ بات آپ کے ذہن میں بطور وسوسہ کے ڈالے کہ ایسے معبود پر کیوں ایمان و یقین رکھتی ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو اس سے آپ یہ کہئے کہ کسی چیز کی تصدیق کے لئے اس کا دیکھنا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ لوگ ہمیشہ سے بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں اور ان کے وجود کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور ان کی صحت کا اقرار کرتے ہیں لیکن انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے اور نہ ان ہی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے۔

اول: اس مسئلہ کو ہم چند مثالوں سے واضح کرتے ہیں:

ایک شخص اپنے دادا کے دادا، یا نانی کی نانی کو نہیں دیکھے ہوتے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے دادا کے دادا اور نانی کی نانی موجود تھے۔

صفحہ ۱۷ کا بقیہ) === بعض بندوں کا اللہ کی اطاعت سے نافرمانی کرنا انہیں اللہ کی بندگی سے نہیں نکال دیتا۔ کیونکہ وہ اس کی تابع و سرنگوں ہیں اور ان کے سارے اعمال کا خالق اللہ ہے جو انسان کے واسطے سے وجود میں آیا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ پیدا نہیں ہوتے، دوسرے الفاظ میں زیادہ واضح طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت سے کوئی مخلوق باہر نہیں نکل سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی شرعی مشیت جس کے مطابق آخرت میں جزاء و سزا مرتب ہوتی، بندے کا اس سے نکلنا ممکن ہے، اس وجہ سے اسے گنہگار کہا جاتا ہے اور اس عمل پر اسے جزا اور سزا دی جاتی ہے۔

دوم : وہ کپڑے جو آپ زیب تن کی ہوئی ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کس نے اپنے آلات سے بنے بنائے ہیں؟ جواب ہوگا نہیں، لیکن آپ یقین رکھتی ہیں کہ کسی کاریگر نے اسے بنایا ہے اور اسے فروخت کیا ہے اور پھر ہمارے پاس وہ پہنچا ہے۔

سوم : کیا آپ نے جاپان کا شہر ٹوکیو دیکھا ہے یا کم سے کم اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اس کی زیارت کی ہو، جواب عموماً نفی میں ہوگا لیکن اسکے باوجود اس شہر کے وجود کا آپ پورا یقین رکھتی ہیں، کیونکہ آپ نے بیسٹار لوگوں سے اس کے متعلق سن رکھا ہے اور محض ان ہی خبروں کی بنیاد پر آپ اس کے وجود کی قائل ہیں۔

چہارم : اگر کسی بچی کو اس کے والدین یہ بتائیں کہ تمہارا ایک بھائی ہے جس کا نام احمد ہے جسے اس نے دیکھا ہی نہیں کیونکہ وہ اس کی ولادت سے پہلے امریکا تکنیکل تعلیم حاصل کرنے چلا گیا تھا اور وہ واپس نہیں آیا ہے تو کیا یہ بچی محض اس بنیاد پر کہ اس نے اسے دیکھا نہیں ہے، اس بھائی کا انکار کر دے گی اور والدین کی باتوں کی تکذیب کر دے گی، جواب نفی میں ہوگا بلکہ اس کے برعکس اپنے والدین کی باتوں کی صدق دل سے تصدیق کرے گی، اور اپنے بھائی احمد کے وجود کا اقرار و اعتراف کرے گی۔ اور اس کے یقین میں اسوقت کتنا اضافہ ہو جائے گا جب احمد اس کے پاس کوئی خط بھیج دے۔ اور اس کے ساتھ اس کے لئے ایک سونے

کا کنگن بھی ہو۔ اگر کوئی شخص احمد کے وجود کا انکار کر دے تو یہ بچی اسکی تکذیب کرے گی اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے احمق و کم عقل کے گی ، اس وقت بہن کے ایمان و یقین کا کیا عالم ہوگا جب احمد اس کے پاس دوسرا خط لکھے اس میں اپنا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھ دے کہ وہ سرخ و سفید اور خوبصورت ہے۔ اور میانہ قد ہے نہ تو بہت لمبا ہے اور نہ پستہ قد، وہ اپنے اخلاق و عادات کی توصیف کرتے ہوئے لکھے کہ وہ اعلیٰ و افضل اخلاق کا حامل ہے، خیر و احسان کی چیزوں کو پسند کرتا ہے اور بنفس نفیس انجام بھی دیتا ہے، ظاہر ہے کہ بہن ان سب باتوں کو سن کر اپنے بھائی کے وجود و معرفت میں کامل الیقین ہو جائے گی، حالانکہ اس نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے۔

پہنچم: کیا آپ عقل و فہم نہیں رکھتیں، جس کے ذریعہ سے کونلہ اور چربی میں پہلے کے سیاہ اور دوسرے کے سفید ہونے سے فرق نہیں کرتیں، اسی طرح سے تاریکی اور روشنی، سایہ اور گرمی، کھجور اور انگارے میں فرق نہیں کرتیں، جواب جی ہاں میں ہوگا، اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ آپکی عقل کہاں ہے؟ کیا آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ اگر آپ اس کے جواب میں عرض کریں کہ میں نہیں جانتی اور میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ ایسی چیز کی کیوں تصدیق کرتی ہیں جسے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے؟

لیجئے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے عقل کے وجود کا ایمان و یقین اس

لئے رکھتی ہیں کہ آپ ان علامتوں کو دیکھتی ہیں جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ اور وہ چیزوں کی معرفت اور ادراک اور باہمی امتیاز اور سمجھ بوجھ ہے، ان چیزوں کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے آپ عقل کا انکار اور اس کی تکذیب کیسے کر سکتی ہیں؟

اسی طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور نہ ایسے شخص کو ہی دیکھا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس کی ذات پاک پر پورا ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ اسکے آثار و علامتیں، اس کے وجود و قدرت اور علم و حکمت اور لطف و رحمت پر بحسن و خوبی دلالت کرتی ہیں۔ اس لئے کہ علامتیں کس چیز کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے بطور دلیل کافی ہوتی ہیں۔

ملاحظہ کیجئے "سے ہوئے کپڑے، یا تعمیر شدہ دیواریں، یا سرسبز درخت کو، کیونکہ سلعے کپڑے عقلی طور پر کسی ایسے انسان پر دلالت کرتے ہیں جس نے اسے اپنی مشین سے سلا ہے، اسی طرح بی ہوئی دیواریں ایسے انسان پر دلالت کرتی ہیں جس نے اسے بنایا ہے، اور ہرے بھرے درخت ایسے انسان پر دلالت کرتے ہیں جس نے پودے لگائے ہیں، اور ہم کو درزی اور کاریگر، اور مالی کے دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تاکہ ہم ان کے وجود کے قائل ہوں، اور محض ہم ان کے آثار کو دیکھ کر ان کے وجود اور علم و قدرت کا یقین کر لیتے ہیں۔

بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت و علم و حکمت پر، آسمان

وزمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان عظیم مخلوقات اور عجائبات ہیں، دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور علم و قدرت و حکمت پر سب سے بڑھ کر دلیل قرآن ہے جس کو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جو ایسے علوم و معارف پر مشتمل ہے جس کے لانے سے بشری عقل عاجز ہے، جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے صادر ہونا ناممکن ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعہ سارے عربوں کو چیلنج دیا کہ ایک سورہ اس جیسی لے کر آئیں، لیکن وہ لوگ عاجز رہے، اور پیش نہ کر سکے۔

تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی جامع کتاب جو تمام علوم اور معارف، اور احکام و آداب، اور رشد و ہدایت و اصلاح حیات جیسی عظیم تعلیمات پر مشتمل ہو، اس کا نازل کرنے والا غیر موجود ہو، اور نہ وہ علیم، و حکیم، و قدیر اور نہ سمیع و بصیر ہو، ہرگز ایسا ممکن نہیں، ٹھیل پر ایک گلاس پانی کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ خود بخود آگیا ہو اور اس کا کوئی لانے والا نہ ہو، تو کیسے اس پوری کائنات کے متعلق یہ تصور کیا جاسکتا ہے وہ خود بخود معرض وجود میں آگئی ہوگی۔ کائنات کی ہر چیز چاہے وہ آسمان پر ہو یا زمین پر، خشکی پر ہو یا سمندر میں، اللہ جل شانہ کے وجود کی واضح دلائل ہیں اور اس کے علم و قدرت و حکمت پر شواہد ہیں۔

آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ان آیتوں میں غور و تدبر کرتے ہیں جو اس کے وجود و قدرت و علم و حکمت و کمال و رحمت کو ثابت کرتی ہیں۔ ارشاد ہے:

”إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ“

علی العرش "

(سورة الاعراف : ۵۴)

ترجمہ : درحقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش بریں پر مستوی ہوا .

" قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم "

(سورة المؤمنون : ۸۶)

ترجمہ : آپ کہئے کہ (اچھا) سات آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے .

" قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار "

ومن يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر "

(سورة يونس : ۳۱)

ترجمہ : آپ کہئے کون تمہیں آسمان وزمین سے رزق پہنچاتا ہے یا کون کان اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے ! اور کون جاندار کو نکالتا ہے بے جان سے اور بے جان کو نکالتا ہے جاندار سے ؟ اور کون ہر کام کا انتظام کرتا ہے ؟ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور رحمت و حکمت پر مزید آیات اس طرح دلالت کرتی ہے . ارشاد باری تعالیٰ ہے :

" ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون "

(سورة الروم : ۲۰)

ترجمہ : اسی (اللہ) کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا

پھر تھوڑے ہی دن میں تم (سب) آدمی (بن کر زمین پر) پھیل گئے .

" ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر

واسجدوا لله الذى خلقهم إن كنتم إياه تعبدون "

(سورة فصلت : ۳۷)

ترجمہ : اور اس کی نشانیوں میں رات اور دن ہے اور سورج اور چاند ہے (بس)

تم لوگ نہ سورج کو پوجو اور نہ چاند کو ، بلکہ صرف اللہ ہی کو پوجو جس نے ان

سب کو پیدا کیا اگر واقعی تم عبادت گزار ہو .

" ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم واللوانكم "

(سورة الروم : ۲۲)

ترجمہ : اور اس کی نشانیوں میں سے بنانا ہے آسمانوں اور زمین کا ، اور الگ الگ

ہونا تمہاری زبانوں کا اور رنگتوں کا .

" ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهما وجعل

بينكم مودة ورحمة " (سورة الروم : ۲۱)

ترجمہ : اور اسی کی نشانیوں میں ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی

بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے (یعنی میاں

بیوی کے) درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی "

" ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيى به

الأرض بعد موتها " (سورة الروم : ۲۴)

ترجمہ : اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ،

خوف کی راہ سے بھی اور امید کی راہ سے بھی، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس سے زمین کو شاداب کر دیتا ہے۔

" ومن آياته ان تقوم السماء والأرض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون " (سورة الروم : ۲۵)

ترجمہ : اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں پکار کر زمین سے بلانے گا تو تم یکبارگی نکل پڑو گے۔ خاتونِ اسلام : جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی آیات اور مخلوقات سے حاصل کر لی تو یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے (۹۹) نام ہیں اور ان ناموں میں جس سے آپ کا جی چاہے اللہ تعالیٰ کو پکاریئے اور دعا کیجئے کیونکہ یہ سبھی اسماء حسنی اور صفات علیاء ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

" و لله الأسماء الحسنی فادعوه بما " (سورة الاعراف : ۱۸۰)

ترجمہ : اور اللہ ہی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں ، تم انھیں سے اسے پکارو۔ لہذا آپ اس طرح سے دعا کر سکتی ہیں : یارب ، یارب یا اللہ یا اللہ ، یا رحمن یا رحمن ، یاذا الجلال والاکرام ، یا حی یا قیوم ، یا بدیع السموت والارض ، یا لطیف یا خبیر ، یا سمیع یا بصیر ۔

(۱) حدیث صحیح میں آیا ہے : اللہ تعالیٰ کے سو ۱۰۰ میں ایک کم نام ہیں، جس نے انھیں شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا (رواہ البخاری ۹/۱۲۵)

ان اسماء حسنی کے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حالتوں کے لئے جو
چاہیں سوال کریں اور اپنی دعائیں الحاح (۱) وزاری سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ
دعائیں الحاح کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

(۱) دعاء میں الحاح کے معنی یہ ہیں اسے بار بار و تکرار سے طلب کریں۔

فرشتوں پر ایمان

جب آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر ایمان لی آئیں اور اس کے اسماء حسنیٰ اور صفات حمیدہ کی اچھی طرح معرفت حاصل کر لی، تو اس کے بعد اس کا علم رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ مخلوقات کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی اور نہ حواس سے ادراک کئے جاسکتے ہیں لیکن ہمیں ان پر ایمان لانے اور ان کے وجود کو تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مخلوق فرشتے ہیں (۱) اور جن و شیاطین ہیں، لہذا ان کے وجود پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ان پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں لائے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔

فرشتوں کے وجود پر دلائل :

فرشتوں اور جن و شیطانوں پر ایمان لانا غیبی امور سے متعلق ہے۔ لیکن ان کے وجود پر حسی دلائل بھی پائے جاتے ہیں جو یہ ہیں :

(۱) فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جو دن رات اس کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں اور اس کے احکام کی بغیر چوں و چرا تعمیل کرتے رہتے ہیں۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جبرئیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا۔

(۲) غزوہ ۶ بدر میں فرشتوں کا قتال کرنا، جن کی لوگوں نے آوازیں بھی سنیں، اور مقتول کافروں کے جسموں پر ضرب کاری بھی دیکھی گئیں۔

(۳) ملک الموت کا انسانوں کی روح قبض کرنا اور اسے آسمان کی طرف لیجانا، حتیٰ کہ انسان اپنی روح کو آسمان کی طرف اٹھالے جانے کو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

(۴) مسلمان اپنے دل میں اچھے و نیک کاموں کی طرف رغبت و میلان محسوس کرتا ہے جو دل میں فرشتے کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: آدمی پر شیطان کی تاثیر ہوتی ہے اور اسی طرح فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی: ۲۱۹/۵

جن وشیطان کے وجود پر دلائل (۱)

- (۱) آسبی اثرات : بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن وشیاطین جنھیں لپٹ جاتے ہیں ان کے حرکات و سکنات پر حاوی ہو جاتے ہیں ، اور ان کی زبان سے کلام کرتے ہیں . یہی وجہ ہے کہ آسیب زدہ کبھی کوئی اجنبی یا ایسی زبان بولتا ہے جس سے وہ پہلے سے قطعی نا آشنا ہوتا ہے، یہ جنوں کے وجود کا زبردست ثبوت ہے، کیونکہ یہ ایسی طاہری اور محسوس چیز ہے جس کا عقل انکار نہیں کر سکتی .
- (۲) قرآنی آیات : قرآن کریم میں جنوں کا متعدد جگہ ذکر آیا ہے اور مستقل ایک سورت سورہ ۶ جن سے موسوم ہے .
- (۳) احادیث نبویہ : اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت جنوں کا تذکرہ ملتا ہے .

(۱) جن و جان کے ایک ہی معنی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، جنوں میں مؤمن اور کافر، نیک و برے، انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں رسول نہیں بھیجے گئے، ہاں ان میں ڈرانے کے لئے داعی بھیجے گئے ہیں، جنات انسانوں میں بھیجے گئے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں .

شیاطین، شیطان کی جمع ہے جس کے معنی وہ خبیث الروح جو سرکش ہو اور برائیوں کا حکم دیتا ہو، اور نیکیوں سے روکتا ہو، شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں .

" حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 جنوں کی نگاہوں سے انسان کی شرمگاہ کی پردہ پوشی جب وہ بیت الخلاء میں داخل
 ہو تو " بسم اللہ " کہنے سے ہوتی ہے (رواہ الترمذی ۵۰۴/۲ احمد وابن ماجہ)
 (۳) جرائم : جن جرائم کی طرف انسان خواہشمند ہوتا ہے اور روئے زمین پر جن
 گناہوں کا ارتکاب وہ کرتا ہے جیسے زنا کاری قتل ، خیانت ، یہ سب گناہ شیطانی
 اثرات سے سرزد ہوتے ہیں ، جسے وہ انسان کے لئے مزین کرتا ہے اور پھر اس
 کے ارتکاب پر آمادہ کرتا ہے . اور یہ ایسا اثر ہے جو ظاہر اور محسوس کیا جاتا ہے .
 اگر انسان اپنی فطرتِ سلیمہ پر قائم رہے تو ان خواہش اور گناہوں کا مرتکب نہ
 ہو .

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے " رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا " آدمی پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اور فرشتوں کا بھی ،
 شیطان کا اثر یہ ہے کہ شر کی طرف مائل ہو اور حق کی تکذیب کرے ، اور
 فرشتے کا اثر یہ ہے کہ خیر کی طرف میلان اور حق کی تصدیق کرے ، جو اسے (رغبت)
 محسوس کرے تو وہ اسے اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس کا شکر ادا کرے اور جو
 اس کے علاوہ محسوس کرے تو وہ " اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم " (۱)
 کہے قرآن کریم میں آیا ہے :

" إنا أرسلنا إلى الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا " (۲)

(۲) سورہ مریم : ۸۴

(۱) ترمذی ۵ : ۲۱۹

ترجمہ: کیا آپ کو علم نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو ان کو خوب ابھارتے رہتے ہیں۔

مندرجہء بالا طور میں ہم نے جو کچھ فرشتوں اور جنوں کے وجود پر دلائل پیش کئے ہیں وہ صرف اس لئے کہ آپ کے دل و دماغ سے اس سلسلہ میں شک و شبہات ختم ہو جائیں، ورنہ تو ایک مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زباں نے جو کچھ فرشتوں اور جنوں اور شیطانوں کے متعلق تذکرہ کیا وہ ان کے وجود و اہمیت پر ایمان و یقین رکھنے کے لئے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر حال میں سچا اور برحق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کلام اللہ عزوجل اس کے برعکس ہو جس کی اس نے خبر دی ہے۔

کتابوں و رسولوں پر ایمان

خاتون اسلام:

آپ کے عقیدہ کی تکمیل، اللہ کی کتابوں، اس کے رسولوں، اور یوم آخرت (۱) پر ایمان لاکر ہوتی ہے۔

(۱) قرآن کریم نے یوم آخرت کی تفصیلات بحسن و خوبی بیان کی ہے چنانچہ اس نے حشر و نشر، نامہ اعمال، میزان، حساب و کتاب، جنت اور اسکی نعمتیں اور جہنم اور اس کا عذاب جیسی چیزیں بیان کی ہیں، سورۃ الرحمن، الواقعة، ق، الزمر وغیرہ جیسی سورتوں کے مطالعہ سے تفصیلات معلوم کی جاسکتی ہیں۔

آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان لانے جیسا ایمان بالغیب میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ کتابیں بھی رسولوں جیسی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی جاسکتی تھیں، کتابیں پڑھی و سنی جاتی ہیں، اسی طرح انبیاء کرام دیکھے جاتے تھے۔

قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ جسے ہم اپنے سینوں میں محفوظ کئے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں۔

اور رسولوں میں سب سے آخر میں مبعوث ہونے والے رسول وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ آخری کتاب ہے آپ کی بعثت و رسالت کی اسی طرح سے گواہی دی ہے جس طرح سابقہ رسولوں کی بعثت کی شہادت دی ہے۔

وہ انبیاء کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے تھے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی تفصیل یہ ہے:

تورات : حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

انجیل : حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

زبور : حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کو

مستزیم ہے، کیونکہ ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمایا ہے، جو وحی لانے کے کام پر مامور تھے۔

اسی طرح آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے وجود کو مستزیم ہیں جن کی طرف سے اور جن کے واسطے سے انبیاء کرام کی طرف وحی کی گئی ہے، دوسری طرف انبیاء و رسولوں کے وجود کو بھی ثابت کرتی ہیں جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تمام لوگوں تک اسکی تبلیغ فرمائی۔

یوم آخرت پر ایمان :

یوم آخرت پر ایمان تمام مسلمانوں کے عقیدے کا ایک اہم جزء ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات اپنی کتابوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بیان فرمائی ہے۔ (۱) اور اس کا واقع ہونا یقینی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
(النساء ۵۹) اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو " ذلکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ
والیوم الآخر " (البقرہ : ۲۲۸)

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا چپ رہے، رواہ البخاری ۱۳/۸ و مسلم ۱/۲۹ ان آیات و احادیث میں یوم آخرت پر ایمان کی صراحت ہے۔

گنجائش نہیں، کیونکہ یوم آخرت ہی میں ان تمام اعمال کی جزاء و سزا ملے گی جس کا انسان اس دنیوی زندگی میں مکلف تھا۔

یوم آخرت کے وجود پر بعض شبہات کے ازالہ کے طور پر بعض دلائل پیش کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یوم آخرت کی آمد تمام شبہات سے بالاتر ہے۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت بیداری میں جنت میں داخل ہونا اور وہاں کی نہروں اور محلوں کا مشاہدہ کرنا اور یہ اس وقت ہوا جب آپ شب معراج میں بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ اور یہ ایک ایسی قطعی دلیل ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اس طرح سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم جب آپ حالت نماز میں تھے مسجد کی دیوار تلے جنت اور جہنم آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر ان کے تذکرے اور اوصاف بیان فرمائے ہیں اور ان تمام حالات و کیفیات کی وضاحت فرمائی ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت کے احوال شروع ہو جائیں گے اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم رسید ہو جائیں گے، اسی طرح سے جنت کی نعمتوں اور جہنم کے دردناک عذابوں کا مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔

۲۔ خود ہمارا وجود اور دنیوی تمام آرام و آسائش اور قسم قسم کی تکلیفوں اور اذیتوں کا وجود ایک ایسی اخروی زندگی کے وجود پر دلالت کرتا ہے جو اس وجود

سے زیادہ کامل اور اس سے زیادہ بہتر ہوگی اور وہ زندگی لازوال اور لافانی ہوگی جس خدائے بزرگ وبالائے اپنی قدرت سے اس دار فانی دنیا کو پیدا فرمایا ہے وہ ذات پاک اس پر قادر مطلق ہے کہ ایسے عالم کو پیدا فرمادے جو اس دنیا و مافیہا سے کہیں زیادہ عظیم الشان و عالی شان ہو۔

۳ - خشک و مردہ اور بے جان زمین پر جب بارش کی پھوار پڑتی ہے تو چند دنوں کے اندر ہی زمین سبزہ زار بن جاتی ہے اور طرح طرح کی سبزیوں اور پھولوں اور پھولوں سے لہلہا اٹھتی ہے اور ہر طرح کے فوائد و منافع سے لبریز ہو جاتی ہے تو کیا یہ حیات فانیہ کے بعد حیات ثانیہ کی واضح دلیل نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حیات ثانیہ پر استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

” وَأَيَّةَ لَهْمِ الْأَرْضِ الَّتِي أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ”

(سورۃ یس : ۳۳)

ترجمہ : اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے زمین مردہ ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس میں سے غلے نکالے سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں۔
مزید ارشاد گرامی ہے۔

” وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتِ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ” (سورہ الحج ۶۰۵)

ترجمہ : اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پیسے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوش نما نباتات اگتی ہے، یہ

(سب) اس سبب سے کہ اللہ ہی (کی ہستی) حق ہے، وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
 ارشاد باری ہے۔

” و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل
 باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج“
 (سورة ق: ۹-۱۱)

ترجمہ: اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا اور پھمگم ہم نے اس سے باغ اور کھیتی کا غلہ اور لمبے لمبے کھجور کے درخت، جن کے کچھے خوب گندھے ہوئے رستے ہیں اگائے، بندوں کو روزی دینے کے لئے اور ہم نے اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اسی طرح (زمین سے حشر میں) نکلنا ہوگا۔

مذکورہ بالا آیتیں اور اس طرح کی دوسری آیتیں عقلی اور ظاہری طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو ذات پاک پیدا کرنے اور حیات بخشنے پر قادر ہے وہ موت دینے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس سے یہ بات بلاشبہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یوم آخرت جس کے معنی دنیاوی زندگی کی استثناء اور فنا اور اس کے بعد اخروی زندگی کا وجود اور آغاز ہے اور وہ ایک قطعی اور یقینی اخروی زندگی ہے جس کا آنا یقینی ہے۔

۴۔ پھر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی ظالم ہے کوئی مظلوم ہے۔ کوئی مالدار آسودہ حال ہے، تو کوئی مفلس اور فاقہ مست، کوئی موہمن تنگ دست ہے، تو کوئی کافر خوشحال ہے۔ اس قسم کا

فرق مراتب و تقاوت ، انسانی زندگی میں روز مرہ کا مشاہدہ ہے، اب اگر زندگی کے دن گزار کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور مظلوم کے لئے ظالم سے قصاص نہ لیا جائے ، اور فقیر مالدار کی مال داری کا مزہ نہ چکھے اور تنگ دست مومن نعمتوں سے فیضاب نہ ہو پائے ، تو یہ حکمت ، وعدل و مساوات سے بعید ہوگا، یہی صورت حال عقلی طور پر ایک دوسری زندگی کی متقاضی ہے تاکہ ظالم سے قصاص لیا جائے اور تنگ دست مومن نعمتوں سے فیضاب ہو جائے اور خوشحال کافر اپنی بد بختی کا نظارہ کرے .

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

”ولله مافی السموات ومافی الأرض لیجزی ء الذین أساؤا بما عملوا ویجزی الذین أحسنوا بالحسنى“ (سورة النجم : ۳۱)

ترجمہ : اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے انجام کار یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کی پاداش میں بدلہ دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو نیک بدلہ دے گا .

قضاء و قدر پر ایمان

خاتون اسلام :

آپ کے عقیدہ کا ایک جزء قضاء و قدر پر ایمان لانا ہے . اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے .

" إنا كل شئ خلقناه بقدر " (سورۃ القمر : ۲۹)

ترجمہ : ہم نے ہر چیز کو (ایک خاص) انداز سے پیدا کیا ہے .

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسائل کے جواب میں ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا :

" ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لاؤ "

(رواہ مسلم : ۲۸/۱ - ۲۹)

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کو، ایمان کا ایک جزء قرار دیا ہے جس کے بغیر ایمان نامکمل رہتا ہے .

قضاء و قدر کے معنی :

اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قلم کو پیدا فرمایا، اور اس سے فرمایا : لکھو ! قلم نے عرض کیا کیا لکھوں ؟ ارشاد ہوا : وہ سب لکھو جو قیامت تک ہونے والی ہے . چنانچہ قلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں

لکھ دیا جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اور جس کے معرض وجود میں آنے کا حکم ہو چکا تھا۔ اسے قضاء کہتے ہیں۔

اور کائنات کی مخلوقات کا ایک منظم انداز سے اور معلوم صفات اور متعین و محدود زمان و مکان میں پیدا ہونا جس میں کمی و زیادتی اور تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اسے قدر کہتے ہیں۔

قصہ کوتاہ: قضا و قدر کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ آپ اس پر ایمان و یقین رکھیں کہ اس کائنات کی ہر چیز جو پیدا ہو چکی ہے یا پیدا ہونے والی ہے اپنی ابتداء حیات سے لے کر انتہاء حیات تک اس کتاب تقدیر کے ہو ہو مطابق ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی جس کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا بعینۃ اسی جگہ اور اسی وقت میں بغیر کمی و زیادتی اور بغیر تقدیم و تاخیر نوشتہ لوح محفوظ کے مطابق وہ معرض وجود میں آئی ہے۔

چنانچہ اس ذہنی زندگی میں جو کچھ مالداری یا فقیری، یا عزت و ذلت، یا صحت و مرض، یا نیک بختی و بد بختی یا خوبصورتی و بد صورتی، یا ظلم و عدل، یا خیر و شر دیکھا جاتا ہے یہ سب اس نوشتہ تقدیر کے عین مطابق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور اسے مقدر کر دیا ہے۔

تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت و حکمت کی سب سے بڑی علامت اور دلیل ہے۔ چنانچہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک چیز کے پیدا کرنے اور اس کو ایک خاص شکل و صورت اور ایک متعین وقت اور جگہ پر پیدا کرنے کا

فیصلہ فرمادیتا ہے اور اس کے بعد ہزاروں سال گزر جاتے ہیں پھر وہ چیز اسی وقت اور اسی جگہ اور اسی شکل و صورت میں نمودار ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا تھا اور اس سے ذرہ برابر بھی مختلف نہیں ہوتی۔

اگر یہ بات قابل تعجب ہے تو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز چیز یہ ہے کہ ایک انسان عاقل وہ سارے کام اپنے پورے عزم و اختیار و آزادی سے انجام دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں بطور خیر و شر لکھا ہے لیکن حقیقت میں اس نے ذرہ برابر بھی اس میں کمی، زیادتی نہیں کی جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔

ایمان بالقدر کے فوائد :

(۱) مؤمن بے خوف و خطر ہو کر زندگی بسر کرے کیونکہ وہ جانتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، ہو کر رہے گا۔

(۲) مؤمن باوجود کوششوں کے جو کچھ حاصل نہ کر سکا اس پر غمگین نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں مقدر نہ تھی اگر وہ اس کے مقدر میں ہوتی تو وہ ضرور حاصل کرتا۔

(۳) مؤمن کے پاس جو کچھ مال اور طاقت و قوت ہے اس پر اتراتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ محض تقدیر الہی اور فضل ربانی ہے۔

(۴) مؤمن پورے اطمینان قلب اور انشراح صدر سے بے خوف و بے طمع ہو کر ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے جس کا حکم ہوا ہے اور ان ساری چیزوں کو

ترک کرتا جس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے وہ ہو کر رہے گا جو مقدر ہو چکا ہے .

(۵) مؤمن یہ جانتا ہے کہ (دنیا میں رونما ہونے والے) تمام واقعات و حادثات اپنے مقدر اسباب کے نتیجہ میں رونما ہوتے ہیں، چنانچہ وہ خیر و فلاح کے اسباب اختیار کرتا ہے اور شر و نقصان کے اسباب سے اجتناب کرتا ہے .

اگر قضا و قدر پر ایمان رکھنے کے صرف یہی مذکورہ فائدے ہوں تو یہ کافی وشافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے .

خاتون اسلام کا اسلام :

معزز خواتین آپ اس کا علم و یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر و مقبول دین، دین اسلام ہے اور اس کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے .

اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے :

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (سورة آل عمران : ۱۹)

ترجمہ : یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے .

مزید فرمایا :

"وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"

(آل عمران : ۸۵)

ترجمہ : اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہر

گزر قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں کھاٹے والوں میں سے ہوگا۔

ارکان الاسلام :

آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے " لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔

لہذا آپ بھی اپنے اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر رکھئے۔ اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہ کیجئے، ورنہ آپ کا اسلام ناقص ہو جائے گا اور آپ خسارے میں پڑ جائیں گی۔

کلمہ ء توحید کے معنی :

کلمتہ " لا الہ الا اللہ " کی شہادت کے معنی و مفہوم یہ ہیں کہ آپ اس کا علم و یقین رکھئے کہ " اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس کے الہ و رب ہونے پر آپ ایمان لے آئی ہیں، اور اس کے اسماء و صفات کی معرفت رکھتی ہیں۔ اور اس کا اقرار و شہادت دیجئے۔

" أشهد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمداً رسول اللہ " چنانچہ آپ صرف اسی کی عبادت کیجئے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کیجئے، اور غیر اللہ کی عبادت کا ہر حال میں انکار کیجئے اور اس کے اقرار سے گریز

کیجئے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس چیز میں اطاعت کرنا ہے جس کا اسنے اپنے بندوں کو کرنے سے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں یا اقوال و اعمال سے۔

شہادت رسالت کے معنی :

” شہادت رسالت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے معنی و مفہوم یہ ہیں آپ اس کا علم و یقین رکھئے کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب الهاشمی القرشی العربی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ ختم فرمادیا ہے اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، (۱) یہودی اور عیسائی اور مجوسی میں سے جو کوئی بھی آپ کی رسالت و نبوت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ (۲)

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ” قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا“ الاعراف : ۱۸۵

ترجمہ : آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

(۲) اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی بھی شخص چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس نے میرے بارے میں سن رکھا ہو اور پھر میری لائی ہوئی چیز پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم والوں میں ہوگا۔

(رواہ مسلم ۱/۹۳)

اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض قرار دی ہے، اور آپ کی تعظیم اور محبت اور پیروی کو واجب کیا ہے، اور آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے، اور آپ کی یہ اطاعت عقائد، اقوال و اعمال سبھی چیزوں میں ہونی چاہئے اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ ہم اس کے بعد ان اہم عقائد و اقوال و اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے بغیر کسی کا اسلام و ایمان معتبر و مقبول نہیں ہوگا۔

عقائدِ اسلام

(۱) اللہ تعالیٰ کو رب اور معبود اور تمام کمالات سے متصف اور تمام نقائص سے پاک و صاف سمجھ کر ایمان لانا۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر اس طور پر ایمان لانا کہ اس کے معزز بندے ہیں جو اس کے احکام کی بجا آوری میں نافرمانی نہیں کرتے اور جس کام کے کرنے پر مامور ہیں اسے انجام دیتے رہتے ہیں، ان کی پیدائش نور سے ہوئی ہے (۱) رات و دن بغیر مکان و انقطاع کے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں کے انجام دینے کے لئے مکلف کر دیا ہے، جس پر وہ قائم و دائم ہیں، ان فرشتوں میں بعض بندوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور بعض دوسرے روح قبض کرنے کے لئے مقرر ہیں اور بعض جنت کے رکھوالے ہیں، اور بعض جہنم کے سپاہی ہیں اور دوسرے دیگر کاموں پر مکلف اور مامور ہیں۔

(۱) امام مسلم نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : فرشتے نور سے اور جنات آگ سے پیدا کئے گئے ہیں اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (۳۳۱/۸)

اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے " ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین " (المومنون ۱۲ - ۱۳)

ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر ہم نے ایک محفوظ مقام پر اسے نطفہ بنایا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اس طور پر ایمان لانا کہ اس نے اپنے انبیاء میں سے جنہیں منتخب فرمایا ان پر وحی کے ذریعہ سے یہ کتابیں نازل فرمائی۔ جو مومنین و متقین کے لئے شریعت و ہدایت اور نور مبین ہیں، ان صحیفوں اور کتابوں کی مجموعی تعداد ایک سو چار ہے جن میں سے بعض کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہوا ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"صحف ابراہیم وموسیٰ۔" (الاعلیٰ: ۱۹)

ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے۔

"واتینا داؤد زیورا" (النساء: ۱۶۳)

ہم نے داؤد کو زور عطا کیا۔

"واتینا موسیٰ الكتاب" (الاسراء: ۲)

ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔

"إنا أنزلنا التوراة فیما ہدی ونور" (المائدہ: ۴۴)

بے شک ہم ہی نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔

"وقفینا بعیسیٰ ابن مریم واتیناہ الإنجیل: (الحدید: ۲۷)

ترجمہ: اور اس کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دی۔

ان تمام نازل شدہ کتابوں اور صحیفوں میں سب سے عظیم الشان اور آخری کتاب قرآن کریم ہے جو تمام سابقہ شریعتوں اور قوانین کو منسوخ کرنے والی ہے۔ سابقہ تمام کتابیں تحریف و تبدیل سے محفوظ نہیں رہیں اور کلام الہی کا بہت معمولی سا حصہ ان میں باقی رہا۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا واجب اور عمل کرنا ناجائز ہے۔

قرآن کریم پر وہ شخص ایمان لانے والا نہیں سمجھا جائے گا جو اس پر عمل پیرا نہ ہو، اس کے حلال کردہ احکام کو حلال نہ سمجھے، حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ تصور کرے، اس کے بتائے ہوئے حدود و قصاص کو نافذ نہ کرے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ نہ رکھے، اور اس کے عبادات کا پابند نہ ہو، اس کے آداب سے مؤذّب نہ ہو اور اس کے احلاق سے متصف نہ ہو۔ (۱)

(۳) اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ اس طور پر کہ وہ اللہ کی خوشنودی و جنت کی خوش خبری دینے والے اور اس کے غضب و جہنم سے ڈرانے والے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے بندوں پر حجت تمام اور راہ حق واضح فرمادیا ہے، لہذا جو شخص ان پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی ان کے بتائے ہوئے طریقے کی اتباع کی وہ کامیاب و نجات حاصل کی اور جس شخص نے ان کی نافرمانی کی اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ ہلاک ہوا،

(۱۹) حضرت عائشہؓ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا قرآن آپ کے احلاق تھے۔ رواہ احمد ۶/۵۳، ۵۴۔ ابو داؤد ۱/۲۰۸، ۲۰۹

اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کو گناہوں سے مہصوم و محفوظ رکھتا تھا لہذا انہوں نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں فرمایا۔ ان میں زیادہ عظمت و فضیلت رکھنے والے پانچ رسول ہیں، جو یہ ہیں۔

(۱) حضرت نوح علیہ السلام

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام

(۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام

(۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

(۵) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

انہیں اولوا العزم (۱) رسول سے موسوم کیا جاتا ہے اور ان پانچوں میں سب کے امام اور سردار اور نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ تمام انبیاء و رسولوں میں بالاتفاق افضل و اشرف ہیں، اسی طرح آپ کی امت اور لائی ہوئی شریعت تمام امتوں میں افضل اور ساری شریعتوں میں اکمل ہے، آپ کو ان پانچ چیزوں سے نوازا گیا جو

(۱) ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہوا ہے، "ومنک ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ بن مریم"

(سورہ الاحزاب: ۷)

دوسرے انبیاء اور رسولوں کو نہیں دی گئی تھیں (۱) آپ کے فضائل میں سب سے نمایاں چیز قیامت کے دن شفاعتِ عظمیٰ اور وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے :

" عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا " (سورۃ الاسراء : ۷۹)

ترجمہ : جب کیا کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے .

(۵) یومِ آخرت پر اس طرح ایمان لانا کہ اس دنیوی زندگی کا ایک دن خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد اخروی زندگی کی ابتداء ہوگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ اٹھائیں گے، اور دنیوی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب لینے کے لئے میدانِ حشر میں جمع فرمائیں گے تاکہ اپنے اپنے ایمان و تقویٰ اور شرک و گناہ کے مطابق لازوال نعمتوں سے بہرہ ور اور ذلت آمیز عدالیوں سے دوچار ہوں .

(۱) وہ پانچ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی میں مذکور ہیں، مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں . ایک ماہ کی مسافت کے بقدر رعب سے نوازا گیا ہے، ساری سرزمین میرے لئے مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے جہاں نماز کا وقت ہو جائے پڑھ سکتا ہے، مالِ غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے حلال نہیں تھا، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے، پہلے نبی اپنی قوم کے لئے بھیجے جاتے تھے اور میں سارے لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہوں . بخاری

(۶) قضا و قدر پر اس طرح ایمان لانا کہ وہ انسانی زندگی کا پورا نظام اللوقات ہے، اور اس کے ہر ہر لمحہ پر مشتمل و محتوی ہے، تقدیر کے دائرہ سے کوئی چیز بھی باہر نہیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ (۱) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اس میں لکھ دیا ہے، جو اس دنیا میں خیر و شر اور آخرت میں نیک بختی اور بد بختی کے قبیل سے رونما ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے۔

”یہ وہ حق عقائد ہیں جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور یہی وہ دین اسلام کی اساس و اصل ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا دین و عمل ناقابل قبول ہے۔“

اس کے علاوہ کچھ باطل عقائد ہیں جس کا عقیدہ رکھنا حرام ہے، اس کی معرفت رکھنا اس لئے ضروری ہے تاکہ اس سے اجتناب کیا جائے اور اس کے فساد و نقصان کی وجہ سے دوری اختیار کی جائے۔ وہ مندرجہ ذیل چیزیں ہیں۔

(۱) یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطل، نفع اور نقصان پہنچانے کے مالک ہیں، خواہ یہ مقرب فرشتے یا انبیاء مرسلین یا اولیاء صالحین ہی

(۱) رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز قضا و قدر سے ہوتی ہے حتیٰ کے معذوری اور سمجھداری بھی۔ (رواہ مسلم: ۸/۵۱، ۵۲)

کیوں نہ ہوں (۱)

(۲) یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اولیاء جو وفات پا چکے ہیں، وہ ان لوگوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں جو ان کو پکارتے ہیں، اور ان کی مدد کرتے ہیں جو ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے سفارش کرتے ہیں اور سوال کردہ چیز کو عطا کرتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کی عبادت کرتے تھے " ما المسيح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام ، انظر كيف نبين لهم الايت ، ثم انظر انى يؤفكون ، قل اتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا" (البقرہ: ۷۵ - ۷۶)

ترجمہ: مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں بجز ایک رسول کے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں ایک راستباز خاتون تھیں، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھئے ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر اٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے فرما دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا " (مائدہ)

مشرکین مکہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے انکے متعلق ارشاد ہے " ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (يونس : ۱۸)

ترجمہ: یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں (یونس : ۱۸)

(۳) یہ عقیدہ رکھنا کہ انسانوں اور جنوں میں سے کچھ لوگ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں یعنی وہ عالم الغیب ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔
 "عالم الغیب فلا یظهر علی غیبہ احدًا الا من ارتضیٰ من رسول"
 (سورۃ الجن: ۲۶-۲۷)

ترجمہ: وہی غیب کا جانتے والا ہے، سو وہ (ایسے) غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں البتہ برگزیدہ رسول کو۔

"قل لا یعلم من فی السموات والأرض الغیب إلا اللہ" (النمل: ۶۵)
 آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی (مخلوق) موجود ہے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔

(۴) یہ عقیدہ رکھنا کہ حضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور وہ بعض لوگوں کی زیارت کرتے اور ان سے باتیں کرتے اور انہیں عطا کرتے اور ان کی سفارش کرتے ہیں۔

(۵) یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء اللہ میں کچھ لوگ قطب وابدال ہیں جو کائنات میں تصرف کرتے ہیں، چنانچہ وہ لوگوں کو دیتے ولیتے ہیں اور نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ جس کو چاہتے ہیں عہدوں پر فائز اور معزول کرتے ہیں۔

(۶) یہ عقیدہ رکھنا کہ نہ تو کوئی معبود ہے اور نہ بعث بعد الموت ہے، اور نہ جزاء و سزا ہے، اور یہ کمپونٹوں اور ملحدوں کا بدترین عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل خوار کرے، (آج سب کے سامنے ان کی ذلت و رسوائی ہے)

(۷) یہ عقیدہ رکھنا کہ " بدعت حسنہ " کا وجود ہے یعنی جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ قولی و فعلی اور اعتقادی بدعت حصول تقویٰ و طہارت کا ذریعہ ہے، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے :

" تم لوگ (دین) میں نئی چیزوں کے ایجاد سے پرہیز کرو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے . (رواہ ابو داؤد ۲/۵۰۶، ترمذی ۵/۳۳)

قولی عبادتیں :

اللہ تعالیٰ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو بعض قولی عبادتوں کا حکم فرمایا ہے جس کے ذریعہ سے طہارت قلب و تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، جن میں چند مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) کلمہ توحید " لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ " کی شہادت دینا، جس کے پڑھنے کے بعد ہی انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح اذان و اقامت میں دہرایا جاتا ہے اور وفات کے وقت اس کی تلقین کی جاتی ہے .

(۲) حدیث میں آیا ہے " اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاِلهِ اِلَّا اللّٰهُ " بہترین ذکر " لاِلهِ اِلَّا اللّٰهُ " ہے . اور بہترین دعا " الحمد للّٰہ " ہے . (رواہ الترمذی ۵ : ۳۴۳) (۱)

(۱) ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے " اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاِلهِ اِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ "

- (۳) سبحان اللہ والحمد للہ ، ولاله الا اللہ ، واللہ اکبر " (۱) کہنا .
 (۴) سبحان اللہ وبحمدہ ، سبحان اللہ العظیم (۲) کہنا .
 (۵) أستغفر اللہ العظیم الذی لا اله الا هو الحی القيوم (۳) کہنا .
 (۶) لا اله الا اللہ وحده لا شریک له الملك وله الحمد وهو على كل شىء
 قدير (۴) کہنا

- (۱) مسلم کی حدیث میں ہے " سبحان اللہ والحمد للہ ولاله الا اللہ واللہ اکبر " میرے نزدیک
 کہنا دنیا واپنیھا سے بہتر و محبوب ہے (۸/۷۰)
 (۲) بخاری و مسلم میں ہے " زبان پر دو نکلے بھلکے کلمے ، میزان پر وزنی ، رحمن کے نزدیک پسندیدہ یہ
 ہیں " سبحان اللہ وبحمدہ ، سبحان اللہ العظیم "
 بخاری ۱۹۹/۹ مسلم ۸/۷۰
 (۳) حدیث میں ہے ، جس کسی نے " استغفر اللہ العظیم الذی لا اله الا اللہ الحی القيوم واتوب
 الیہ " کہا اسکی مغفرت ہو جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو .
 (۴) اسکی دلیل صحیحین کی یہ حدیث ہے ، جس کسی نے " لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ، له الملك
 وله الحمد وهو على كل شىء قدير " دن میں سو مرتبہ کہے تو اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب
 ملتا ہے اور دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور سو گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ، اور شیطان کے شر سے اس
 دن محفوظ ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اس سے اچھے عمل والا نہیں ہوتا الا کہ وہ اس سے زیادہ اچھے
 عمل کرے .

(۷) یہ دعا " ربنا آتنا فی الدنيا حسنةً و فی الاخرة حسنةً و قنا عذاب النار "

پڑھنا

(۸) قرآن کریم کی تلاوت کرنا (۱)

(۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا (۲)

(۱۰) امر بالمعروف (یعنی نیکیوں کا حکم کرنا) اور نہی عن المنکر (برائیوں سے منع کرنا)

(۱۱) " اسلامی سلام " السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ " کہنا .

یہ چند اقوال و کلمات ہیں جو درحقیقت عبادات ہیں اس کے کرنے والے کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور قلب کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے .

اس کے علاوہ کچھ ایسے اقوال و کلمات ہیں جس کو نہ کہنے و بولنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) حدیث میں ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والے کا سہارشی بن کر آنے گا (رواہ مسلم : ۱۷/۲)

(۲) حدیث صحیح میں ہے جو مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں (رواہ مسلم : ۷/۱)

- (۱) ہر طرح کی درغ گوئی اور جھوٹ بولنا اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف افترا پر وازی کرنا . (۱)
- (۲) مسلمان بھائی کو گالی دینا اور اسکی عیب جوئی کرنا (۲)
- (۳) مسلمان کی عنیت و شکایت کرنا (۳)
- (۴) چغل خوری اور باتوں کو ادھر ادھر نقل کرنا (۴)

(۱) اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے " ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا" (سورۃ الصف :

۲۰۷

اس شخص سے زیادہ کون عالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد " جو شخص جان بوجھ کر جھوٹ بات میری طرف منسوب کرے، اسے جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے . (رواہ البخاری : ۱/۳۷ مسلم ۵۲/۱)

(۲) اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے " مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے" (رواہ البخاری ۱/۲۰۱ ، مسلم ۵۲/۱)

(۳) اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے " ولا یفتب بعضکم بعضا " (الحجرات : ۱۲) تم میں بعض بعض کی عنیت نہ کرے .

(۴) حدیث میں ہے دو آدمیوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا ان میں ایک چغل خوری کیا کرتا تھا . بخاری (۱/۶۲)

- (۵) مسلمانوں کا استنزاء اور مزاق اڑانا .
 (۶) بدگوئی اور فحش کلامی کرنا (۱) .
 (۷) جھوٹی گواہی دینا (۲)
 (۸) کلمات کفر زبان سے کہنا " جیسے شریعت وسنت یا صاحب شریعت کا مذاق اڑانا .
 (۳) (یعنی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنزاء کرنا . نعوذ باللہ)
 (۹) غیر اللہ کی قسم کھانا (۳)
 (۱۰) غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے دعاء کرنا (۵)

-
- (۱) صحیح حدیث میں ہے : مؤمن لعن و طعن و فحش کلامی اور بے ہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا .
 (۲) حدیث میں ہے کیا میں تم کو گناہ کبیرہ میں بڑے گناہ کے متعلق نہ بتا دوں اور وہ تین ہیں : شرک باللہ کرنا ، والدین کی نافرمانی کرنا ، اور جھوٹی گواہی دینا (مسلم ۱/۶۳)
 (۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے " قال ابا اللہ وآياته ورسوله كنتم تستهزون " (سورة التوبه : ۶۵) ترجمہ : آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو تم استزاء کر رہے ہو اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ .
 (۴) حدیث میں ہے : جس کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا (الترمذی : ۱۱۰/۰۲)
 (۵) ارشاد باری ہے " فلا تدعوا مع الله احداً (الحج ۱۸) اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو .

ج۔ فعلی عبادتیں :

وہ افعال و اعمال جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ قولی عبادتوں کی طرح بے شمار ہیں، ان اعمال و افعال میں بعض کئے جاتے ہیں اور بعض ترک کئے جاتے ہیں۔

وہ افعال و اعمال جو انجام دیئے جاتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں :

- (۱) نماز پڑھنا جو تمام فرائض و نوافل میں سب سے عظیم عبادت و عمل ہے۔
- (۲) بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنا۔
- (۳) اللہ کے راستے میں جہاد اور سرحدوں کی نگرانی کرنا۔
- (۴) زکاۃ اور دوسرے صدقات و خیرات ادا کرنا۔
- (۵) صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کی زیارت اور انکے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔
- (۶) مہمان نوازی اور اس کا اعزاز و اکرام کرنا۔ (۱)
- (۷) عمومی کار خیر کرنا (۲)

(۱) حدیث میں ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے (رواہ البخاری ۱۳/۸ و مسلم : ۲۹/۱)

(۲) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: " وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون " (الحج : ۷۷) کار خیر کیا کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔

(د) وہ افعال جن کا ترک کرنا عبادت ہے :

وہ افعال جنہیں ترک کرنے کا حکم ہوا وہ بھی بہت زیادہ ہیں .

ان سے مراد وہ ساری حرام کردہ چیزیں ہیں ، چاہے وہ قلبی افعال ہوں یا وہ جو اعضاء و جوارح سے کئے جاتے ہیں ، وہ مندرجہ ذیل ہیں .

(۱) والدین کی نافرمانی کرنا :

(۲) زنا کرنا، اس میں اجنبی عورت کو دیکھنا، اس سے مصافحہ کرنا اور چھونا اور تہمت لگانا بھی شامل ہے .

(۳) سود خوری کرنا .

(۴) یتیم کا مال کھا جانا .

(۵) جوا و قمار بازی کرنا .

(۶) چوری کرنا .

(۷) شراب و سگریٹ نوشی کرنا .

(۸) تصویر بنانا یا کھینچنا . (۱)

(۹) ظلم و ستم کرنا یعنی ہر طرح کی نا انصافی کرنا . (۲)

(۱) حدیث میں ہے : اللہ تعالیٰ تصویر کشی کرنے والوں پر لعنت فرماتا ہے . (بخاری ۷/۷۹)

(۲) حدیث میں ہے : ظلم سے اجتناب کرو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوں گی . مسلم : ۱۸/۸

(۱۰) حرام و باطل چیزوں کو سنا، اور گانے اور موسیقی وغیرہ سے لطف اندوز ہونا

(۱).

وہ قلبی اعمال جنہیں ترک کرنے کا حکم ہوا ہے، یہ ہیں .

(۱) تکبر و غرور کرنا، یعنی حق کا دباننا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے. (۲)

(۲) خود پسندی اور اس کے مطابق لوگوں سے رویہ رکھنا. (۳)

(۳) لوگوں سے حسد کرنا (۳)

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" (الاسراء : ۳۶)

ترجمہ : بیشک کان اور آنکھ اور دل ان کی پوچھ ہر شخص سے ہوگی .

(۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں

ذرہ برابر بھی کبر و غرور ہوگا (رواہ مسلم : ۶۵/۱)

(۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " ایک شخص

ایک جوڑا پہن کر خود پسندی کی حالت میں تکبر سے چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر

دھنسا دیا، وہ زمین میں قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. (بخاری : ۳ : ۲۱۵ و مسلم : ۶ : ۱۲۸)

(۴) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : تم لوگ حسد سے

بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے " ابن ماجہ : صفحہ

۱۸۰۸ ابو داؤد : ۵۷۲/۲

- (۳) مسلمانوں سے کدورت رکھنا . (۱)
 (۵) نیک لوگوں سے بغض رکھنا (۲)
 (۶) ظالم و شری و فسادی اور کافر و فاسق و فاجر لوگوں سے محبت و تعلق رکھنا (۳)
 (۷) مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا اور ان کے لئے بدخواہ ہونا (۴)

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے " وینا لاتجعل ہی قلوبنا غلا للذین آمنوا"

ترجمہ : اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کدورت نہ پیدا کر۔

(۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

" ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، اور بے رخی مت کرو، اور ایک دوسرے کا بایکٹ نہ کرو، بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے عین دن سے زیادہ قطع تعلق ہو جائے" بخاری : ۲۳/۸ ، مسلم : ۸/۸
 (۳) کیوں کہ ایمان کی علامتوں میں ایک یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے وہ بھی اسے پسند کرے اور جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے وہ بھی اسے ناپسند کرے۔

اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔

(۴) اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے " والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملو بمتانا واثماً مبیناً" (الاحزاب : ۵۸)

ترجمہ : اور جو لوگ ایذا پہنچاتے رہتے ہیں ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو بدون اس کے کہ انھوں نے کچھ کیا ہو تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بار اٹھاتے ہیں .

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے (مسلم ۶۹/۱)

اور ارشاد ہے : کسی آدمی کے برے ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے"
 مسلم ۱۱/۸

خاتون اسلام کا احسان

احسان، دین اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے کیوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کے متعلق پوچھا گیا تو اپنے جواب میں ارشاد فرمایا کہ، وہ ایمان، اسلام اور احسان کا نام ہے (۱) آپ نے ایمان و اسلام کے بارے میں جان لیا ہے، اب دین اسلام کے تیسرے حصہ احسان کے متعلق ہم کچھ عرض کر رہے ہیں اور آپ اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنے قول و عمل کو ڈھالنے تاکہ دنیا آخرت کی سعادت حاصل کیجئے:

احسان : لغوی اعتبار سے اساءت کی ضد ہے، احسان کرنا واجب اور اساءت (نقصان پہونچانا) حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور احسان کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے (۲) اور اپنی معیت کی خبر دی ہے۔

(۱) حدیث جبریل کی طرف اشارہ ہے جسے حضرت عمرؓ نے روایت کیا ہے :

مسلم : ۱/۲۸، ۲۹

(۲) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے " وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ " (البائدہ: ۹۳)

مزید فرمایا " إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ " (النحل : ۱۲۸)

ترجمہ : بیشک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ حسن سلوک کرتے رہتے ہیں۔

اساءت کی طرح احسان بھی عقیدہ و قول و عمل سبھی میں حاصل ہوتا ہے اور آپ یہ مقام احسان اسی وقت حاصل کر سکتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تمہ دل سے ہمہ وقت دھیان رکھیں، اور اپنے ہر قول و فعل کیوقت یہ تصور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اس کو دیکھ رہی ہیں یا کم از کم وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں یہ فرمایا تھا :

" احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے (رواہ مسلم ۱ : ۲۹) یعنی بندہ جب عبادت کرتا ہے تو ان دو حالتوں میں سے اسکی ایک حالت ہوتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے شدت استحضار کیوجہ سے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور یا اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اور ان دونوں کیفیات کیوجہ سے بندہ اپنے قول و فعل کو بہتر سے بہتر کرتا ہے اور اس کی ادائیگی اچھی طرح سے کرتا ہے تاکہ خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں .

اگر آپ اہل احسان میں سے ہونا چاہتی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو تمام حالات میں یاد رکھیں، جب سوچتی ہوں، اور جب بولتی ہوں اور جب کوئی کام کرتی ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے تمام اقوال و اعمال صالح اور نافع ہوں گے .

یاد رکھئے کہ آپ کا کوئی قول و عمل اسوقت تک معتبر و مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے نہ کیا گیا ہوگا، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں "احلاص" کہتے ہیں۔ (۱)

اور ان تمام اقوال و اعمال کو سیکھئے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور محبوب ہیں اور اسی طرح اس کی ادائیگی کی کیفیت و طریقے کا علم حاصل کیجئے تاکہ اسے صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔

اسی وجہ سے علم کا حصول قول و عمل سے پہلے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

" فاعلم انه لا اله الا الله " (سورہ محمد : ۱۹)

ترجمہ : تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے " الا لله الدين الخالص (الزمر : ۳)

ارشاد ہے " وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (الزمر : ۵)

ارشاد ہے " فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (غافر : ۱۲)

دعاء دین کا ایک حصہ ہے، جس نے غیر اللہ سے دعا کر کے شرک کا ارتکاب کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لئے آپ بھی دعائیں اور تمام عبادتوں میں شرک سے اجتناب کیجئے اور اپنے تمام اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خالص کیجئے۔

امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے " العلم قبل القول والعمل " یعنی علم کا سیکھنا قول و عمل سے قبل ہوتا ہے۔ (بخاری: ۱/۲۷)

اسی اصول کے پیش نظر ہم نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، تاکہ ایک مسلمان خاتون کو جن عقائد، اور اقوال و اعمال کی معرفت حاصل کرنا اور جن اقوال و اعمال سے اجتناب کرنا ضروری ہے انہیں بیان اور واضح کر دیا جائے۔ جس کی قدرے وضاحت ہو چکی ہے۔ اس وضاحت کے بعد ہم قولی اور عملی عبادات کی کیفیات اور اسلامی احلاق و آداب و عادات کی تفصیلات بیان کرتے ہیں

لہذا ہم سب سے پہلے دین اسلام کی سب سے اہم عبادت اور اساس نماز اور اس کے بعد دوسرے آداب و اصول و احلاق کو بیان کریں گے جن کا ہر مسلمان کو اختیار کرنا واجب ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ دنیا و آخرت میں سعادت سے مشرف ہوں۔

طہارت کا بیان :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں کی جاتی۔ (بخاری ۱/۴۵، مسلم: ۱/۱۴۰)

اور طہارت دو طرح کی ہوتی ہے "باطنی طہارت" اور "ظاہری طہارت" ظاہری طہارت تین طرح کی ہوتی ہے:

(۱) بدن کی طہارت

(۲) کپڑے کی طہارت

(۳) جگہ کی طہارت

باطنی طہارت :

باطنی طہارت کے معنی یہ ہیں کہ نمازی کا قلب مندرجہ ذیل چیزوں سے پاک و صاف ہو:

(۱) شک و شبہات رکھنا: (۱) جس کے معنی تردد اور عدم یقین کے ہیں یعنی اللہ

(۱) دینی اصول میں شک و شبہ کرنا کفر سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود یا آخرت میں حشر و لشر اور جزا و سزا کے بارے میں شک و شبہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی تا آنکہ وہ مسلمان ہو جائے اور اس پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے۔

تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق غیر یقینی کیفیت میں ہونا، یا ارکانِ ایمان اور تمام غیبی باتوں کے متعلق جس کی اللہ تعالیٰ نے، یا قرآن کریم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر و نشر اور حساب و کتاب، جزا و سزا، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں کی خبر دی ہے شک و شبہ رکھنا۔

(۲) نفاق اختیار کرنا: جس کے معنی ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا ہے اور منافق (۱) کی تین علامتیں ہیں، وعدہ خلافی کرنا، عمدہ پیمان کو توڑنا، امانت میں خیانت کرنا۔

(۳) شرک کرنا: جس کے معنی یہ ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، خواہ یہ عبادت دعاء اور استغاثہ یا ذبح اور نذر اور خوف و طمع اور رغبت یا قسم سے کی جائے۔ (۲)

(۴) ریاکاری: یعنی وہ عبادتیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہیں اور مسلمان اسے عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کی جائے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں یا اس کی مذمت سے گریز کریں، اور اس طرح کی

(۱) حدیث میں ہے: منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے تو چھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے (بخاری: ۱/۱۶ و مسلم: ۵۶/۱)

(۲) حدیث میں ہے: جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھلی تو اس نے شرک کیا، ترمذی: ۱۱۰/۲ - احمد ۱/۲۷ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

"ریاکاری شرک اصغر کی ایک قسم ہے، حدیث میں ہے :
 "تم لوگ شرک اصغر سے اجتناب کرو، صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول
 شرک اصغر کیا ہے، ارشاد فرمایا: ریاکاری (۱)

(۵) تکبر کرنا: یعنی حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھنا، حدیث
 میں ہے " وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی
 تکبر ہوگا" (مسلم: ۶۵/۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر کے متعلق پوچھا گیا، تو آپؐ نے فرمایا "
 تکبر حق کو دبانا اور لوگوں کو ذلیل کرنا ہے" (البدایۃ و النہایۃ ۲/۳۸۱/ترمذی: ۳/۳۶۱)
 (۶) حسد کرنا: یعنی کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کے متعلق یہ خواہش رکھنا
 کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے چاہے اسے حاصل ہو یا نہ ہو، یہ درحقیقت اللہ
 تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں تصرفات کرنے پر اعتراض کرنا ہے، اسی لئے اس مرض
 کو بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور ایسا شخص کبھی اپنے مقصد میں
 کامیاب نہیں ہوتا اور حکمت پر مبنی ایک مقولہ ہے "الحسود لا یسود" یعنی
 حسد کرنے والا کبھی آسودہ و کامیاب نہیں ہوتا (۲)

(۱) ایک حدیث میں ہے "مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے، عرض کیا گیا، شرک
 اصغر کیا ہے؟ فرمایا "ریاکاری" (احمد: ۲۳۸/۵)
 (۲) صحیح حدیث میں ہے: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، یہ ایسی ممانعت ہے جسے حرام کہا جاتا ہے

(۷) حقد رکھنا: یعنی کسی مسلمان بھائی سے عداوت پر کمر بستہ ہو جانا اور اس کا مسلسل بدخواہ رہنا۔

(۸) بغض رکھنا: یعنی کسی مسلمان سے بغض و عداوت رکھنا اور اس سے ہمیشہ ناراض رہنا۔

(۹) بخیل ہونا: یعنی کار خیر یا نیکی کے کاموں میں بخل کرنا، اچھی چیزوں کو اپنے لئے پسند کرنا اور دوسروں کے لئے ہاتھ روکے رکھنا۔ (۱)

(۱۰) خود پسندی: یعنی کسی شخص کا خود پسند ہونا، اور اپنے قول و فعل کو معیاری سمجھنا اور دوسرے پر ترجیح دینا، یہ دلوں کے خطرناک امراض میں شمار ہوتا ہے (اس سے بہت کم لوگ محفوظ ہوتے ہیں) اور اس مرض کا شکار شفا یاب کم ہی ہوتا ہے۔

(۱) حدیث میں ہے: ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے (مسلم: ۱۸/۸)

ظاہری طہارت :

وہ بدن اور کپڑے اور جگہ کی طہارت سے حاصل ہوتی ہے .

بدن کی طہارت :

بدن کا پیشاب وپانکھانے اور خون سے پاک و صاف ہونا ہے، اور مسلمان عورت پیشاب وپانکھانے سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے استنجاء (۱) اور اپنی شرمگاہ کو دھویا کرے، اور اگر پانی نہ دستیاب ہو تو پتھریا کاغذ یا پرانے کپڑے سے تین مرتبہ صفائی حاصل کرے . (۲) تا آنکہ آخری مرتبہ یہ کپڑا یا پتھریا

(۱) قضاے حاجات کا مسنون طریقہ یہ ہے :

(۱) قضاے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے .

(۲) بیت الخلاء میں پہلے پایاں پیر داخل کرے اور جب وہاں سے نکلے تو دایاں پیر پہلے نکالے اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ اور نکلنے کے بعد الحمد للہ کہے .

(۳) گوبر اور ہڈی سے استنجاء (پاکی) حاصل نہ کرے کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے

(۲) طاق عدد یعنی تین یا پانچ یا سات عدد پتھر استعمال کرنا مستحب ہے .

کاغذ صاف ستھرا برآمد ہو جائے۔ (۱)
 آپ ہمیشہ اس کا اہتمام کیجئے کہ آپ کے جسم کو کوئی نجاست جیسے
 پیشاب اور پائخانہ یا خون نہ لگے۔ اور اگر کبھی لگ جائے تو فوراً پاک پانی سے
 اسے دھو دیکھئے جس سے وہ نجاست زائل ہو جائے گی۔

پاک پانی:

وہ ہے جو اپنی اصل خلقت پر باقی رہے۔ جس کا رنگ اور ذائقہ اور بو، کسی
 دوسری چیز کے مل جانے سے بدل نہ جائے، جیسے کنویں، اور نہروں، اور
 سمندروں کا پانی ہوتا ہے۔
 اسی طرح بدن کی طہارت، حدث اصغر، اور حدث اکبر سے فارغ ہونے کے بعد
 حاصل کی جاتی ہے۔
 حدث اصغر: اسے کہتے ہیں جس سے وضوء واجب ہوتا ہے۔
 حدث اکبر: اسے کہتے ہیں جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔

(۱) مذکورہ بالا مینوں چیزوں اور پانی دونوں کیساتھ صحتی حاصل کرنا مستحب ہے، ورنہ ہر ایک سے تنہا
 طہارت حاصل ہو جاتی ہے، حالانکہ پانی سے صحتی و پاکیزگی زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جمع کر لینا زیادہ
 بہتر ہے۔

وضوء کا طریقہ : جب کوئی مسلمان عورت وضوء کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے حدث اصغر کے ازالہ کی نیت کرے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور برتن میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے تین بار دھوئے، پھر تین بار کھلی کرے اور تین بار ناک میں پانی ڈالے، اور پھر تین مرتبہ چہرہ دھوئے اور پھر تین تین مرتبہ پہلے دائیں اور پھر بائیں ہاتھ کو کہنیوں تک دھوئے اور پھر اپنے سر کا کان سمیت ایک مرتبہ مسح کرے اور پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پیر کو تین تین مرتبہ یا اس سے زیادہ دھوئے تاکہ پانی سارے حصوں میں پہنچ جائے اور ناپاکی سے اچھی طرح طہارت حاصل ہو جائے (۱)

(۱) سبیلین سے لکھنے والی چیزیں، جیسے پیشاب، پاخانہ، ہوا، مٹی۔ (۲)

(۲) گرمی نیند سے سو جانا اگرچہ وہ بیٹھے یا ٹیک لگائے ہوئے ہو، اور اگر لیٹی ہوئی ہے تو ہلکی نیند بھی ناقض وضوء ہے۔

(۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث میں وضوء کا طریقہ اسی طرح مذکور ہے جس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوء کرتے دیکھا ہے (بخاری ۱ / ۵۱، مسلم ۱ / ۱۳)

(۲) ہوا خارج ہونے سے استنجاء نہیں کیا جاتا، استنجاء تو پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔

نواقض وضوء : وضوء کو توڑنے والی مندرجہ ذیل چیزیں ہیں .
 (۳) اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ سے چھولینا . (۱)
 مذکورہ بالا چیزوں میں سے کسی کا اگر وضوء ٹوٹ گیا تو اسے نماز پڑھنا اور طواف
 کرنا اور قرآن کا چھونا جائز نہیں ، تاآنکہ وہ دوبارہ وضوء کر لے .

غسل کا طریقہ :

جب کوئی مسلمان عورت غسل کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے حدیث اکبر
 سے ازالہ کی نیت کرے . پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے ، پھر اپنی
 ہتھیلی پر پانی ڈالکر تین مرتبہ اچھی طرح دھوئے ، پھر مکمل وضوء کرے ، پھر
 اپنے سر کا تین مرتبہ حلال کرے (یعنی پانی ڈال کر انگلیوں سے بالوں کی جڑوں
 تک پہنچائے) پھر اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے اور کانوں کو اندرونی اور
 ظاہری حصوں سمیت دھوئے ، پھر دائیں جانب سر سے پیر تک اور اسی طرح
 اس کے بعد بائیں جانب پانی ڈالے ، اور ان جگہوں پر بھی پانی پہنچائے جہاں

(۱) حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

" جس شخص نے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھولیا ، اس پر وضوء کرنا واجب ہو گیا "

(جامع الاصول : ۴ / ۲۰۸)

ایک اور حدیث میں ہے : جس نے اپنا عضو تناسل چھولیا ، اسے چاہیے کہ وضوء کرے ۔

(موطا امام مالک : ۱ / ۴۲) (والجوداؤد ۱ / ۴۱)

عام طور پر پانی نہیں پہنچ پاتا، جیسے ناف اور دونوں بغل اور دونوں گھٹنوں کے اندرونی حصے تک۔ (۱) جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔

(۱) جنابت : جماع کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے جب دونوں شرمگاہ مل جائیں چاہے انزال ہو یا نہ ہو (۲)

(۲) احتلام : حالت نیند میں کوئی جب یہ دیکھے کہ وہ جماع کر رہی ہے اور منی نکل آئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر منی کا انزال نہ ہو تو غسل کرنا واجب نہیں۔ (۳)

(۳) حیض و نفاس کے خون کے منقطع ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ (۴)

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی اسی طرح کی کیفیت مروی ہے، جسے اصحاب صحاح و سنن نے روایت کیا ہے۔

(۲) حدیث میں ہے "جب دونوں شرمگاہ مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا" (بخاری : ۱/۴۳، مسلم : ۱/۱۸۶)

(۳) ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا "اگر کبھی عورت کو احتلام ہو جائے تو اس کو غسل کرنا واجب ہے تو آپ نے فرمایا اگر منی دیکھے" (بخاری ۱/۲۳، مسلم ۱/۱۴۲)

(۴) حیض و نفاس کے خون کے بند ہونے کی یہ علامت ہے کہ شرمگاہ میں روئی وغیرہ جیسی کوئی چیز داخل کی جائے تو وہ خشک برآمد ہو، یا خون بالکل سفید سا مل ہو جائے جو حیض کے آخری ایام میں نکلتا ہے۔ اور یہ سب سے اچھی علامت ہے کیونکہ اسکے بعد خون نہیں آتا، برخلاف خشکی دیکھنے کے کیونکہ بسا اوقات اس کے بعد بھی خون آجاتا ہے۔

تیمم کا بیان

جب کسی مسلمان خاتون کو وضوء یا غسل کرنے کے لئے پاک و صاف (۱) پانی دستیاب نہ ہو سکے یا دستیاب ہو لیکن کسی مرض یا زخم وغیرہ کی وجہ سے اس کے استعمال پر قادر نہ ہو، یا پانی ٹھنڈا اور موسم بہت سرد ہو اور اسے گرم کرنے کی سہولت میسر نہ ہو، اور اس خاتون پر وضوء یا غسل کرنا واجب ہو تو اسے وضوء و غسل کے بدل کے طور پر تیمم کرنا جائز ہے۔
اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

” وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ. أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ “ (۲) المائدہ : ۶

(۱) ماء طاهر اسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نے اس کے رنگ، بو، اور ذائقہ میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر دی ہو، اگر اس کی اصل خلقت پر رستے ہوئے کچھ تبدیلی آجائے تو وہ پانی بھی پاک ہے جیسے سمندر کا پانی، یا کسی سرخ زمین پر بسنے والا پانی جس کی وجہ سرخی آجائے چونکہ یہ تبدیلی اس کے اصل کی جزء بن چکی ہے۔

(۲) سورہ المائدہ : ۶

ترجمہ : اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔

تیمم کا طریقہ :

سب سے پہلے حدث اصغریا حدث اکبر سے ازالہ کی نیت کرے اور پھر تیمم کی ابتدا " بسم اللہ الرحمن الرحیم" کہہ کر کرے، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارے، پھر دونوں ہاتھ کو چہرہ پر پھیرے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر مل لے، اور اس کے بعد مکمل طہارت ہو گئی، اب نماز اور طواف اور قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔

تیمم ان تمام چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جو ناقض وضوء ہیں اس کے علاوہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر پانی دستیاب ہو جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے۔
(یعنی آب آمد تیمم برخواست)

حیض و نفاس کے مسائل

حیض و نفاس کے کچھ مخصوص شرعی مسائل ہیں جن کا ہر مسلمان خاتون کو جاننا ضروری ہے .

الف - حیض :

رحم سے نکلنے والے اس خون کو کہتے ہیں جو عام طور پر شکم میں بچہ نہ ہونے کی شکل میں نکلتا ہے جو سیاہی مائل سرخ رنگ کا ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں بدلا ہوا کرتی ہے، حیض کی کم سے کم مدت ایک دن اور ایک رات ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہے .

حیض کے سلسلے میں عورتوں کے تین حالات ہیں :

۱ - مبتداء : یعنی وہ عورت جسے حیض پہلی مرتبہ آئے، چنانچہ اس کا حکم یہ ہے کہ خون دیکھنے کے بعد وہ اپنے کو حائضہ سمجھے اور نماز اور ہمبستری، اور قرأت قرآن، اور مسجدوں میں جانا چھوڑ دے تا آنکہ خون کے منقطع ہونے کے بعد پاک و صاف ہو جائے، جسے عام طور سے خشکی سے تعبیر کرتے ہیں یعنی عورت کسی روئی یا کپڑے کو شرمگاہ میں ڈال کر دیکھے اگر اس میں خون کی تری باقی نہیں ہے اور وہ بالکل صاف و سفید تری کے ساتھ برآمد ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ حیض کا خون منقطع ہو چکا ہے .

بسا اوقات اس طرح کی عورتوں کا خون ایک یا دو یا تین دن میں بند ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ پندرہ دن تک جاری رہ کر بند ہوتا ہے، لہذا جب بھی خون بند ہو جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہوگا، لہذا وہ غسل کرے اور نماز پڑھے جماع (۱) وغیرہ جو چیزیں حیض کی وجہ سے ممنوع تھیں وہ اس کے لئے کرنا جائز ہو جائے گا۔

۲۔ معتادہ: یعنی وہ عورت جس کے ہر ماہ حیض کے ایام متعین ہوں، چاہے یہ ایک دن ہو یا اس سے زیادہ، پندرہ دن کے اندر تک ہوں، لہذا اس قسم کی عورتیں اپنی ماہواری کے ایام میں نماز اور جماع اور دوسری ممنوعات چھوڑ دیں گی، اور جب یہ ماہواری کے متعین ایام گزر جائیں اور خون بند ہو جائے تو وہ غسل کرے اور نماز وغیرہ ادا کرے، اس مکمل طہارت کے بعد جو خشکی اور سفیدی کے دیکھنے کے بعد حاصل ہوئی ہو، زرد یا گندلے رنگ کا خون دیکھے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، حضرت ام عطیہ صحابیہؓ فرماتی ہیں کہ "ہم لوگ طہارت کے بعد زردی اور گندلے رنگ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے"

(۱) جماع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر ہو اور وہ جماع کرنا چاہتا ہو تو اسے ایسا کرنا جائز ہوگا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ طہارت کے بعد جماع کرنا ضروری ہے، یا کوئی عبادت ہے، محض یہ بتانا مقصود ہے کہ حیض کی وجہ سے جو جماع ممنوع تھا وہ حیض کے ختم ہونے کے بعد وہ ممنوع چیز جائز ہو جائے گی۔

اگر متعین ایام ماہواری سے قبل ہی خون بند ہو گیا اور اس نے غسل کر لیا اور پھر دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا تو وہ نماز وغیرہ پڑھنے سے رک جائے اور اپنے کو حائضہ سمجھے اور پھر جب متعین ایام ماہواری پورے ہو جانے کے بعد خون بند ہو جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے، اب اگر اس کے بعد زرد یا مٹیالے رنگ کا خون دیکھے تو اس کی پرواہ نہ کرے کیونکہ اب وہ پاک و صاف ہو چکی ہے۔

۳۔ مستحاضہ: اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خون بغیر انقطاع کے مسلسل آتا ہو، ایسی عورت کو کیا کرنا چاہئے قدرے تفصیل ہے، اگر استحاضہ کے مرض لاحق ہونے سے پہلے کوئی متعین عادت رہی ہو جسے وہ ہر ماہ جانتی تھی تو ان ایام میں نماز وغیرہ سے رک جائے گی اور جب وہ گزر جائیں تو غسل کر کے نماز ادا کرے گی، اور ان تمام ممنوعات کو کرنا شروع کر دے گی جو ایام ماہواری کی وجہ سے ممنوع تھے۔ اگر کوئی متعین عادت نہ رہی ہو یا رہی ہو لیکن وہ بھول گئی ہو تو اسے یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ خون کب سرخی سے سیاہی میں یا معمولی سرخی سے گاڑھے پن میں تبدیل ہو رہا ہے، جب وہ یہ تبدیلی محسوس کر لے تو اپنے کو حائضہ سمجھے اور نماز وغیرہ ترک کر دے اور جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ اپنی سابقہ حالت میں واپس ہو گئی تو غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔

اگر اس کے خون میں کوئی تبدیلی ہی نہ پیدا ہو تو عمومی طور پر جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں (۱) ان میں وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے، اور نہ جماع کرے، اور جب یہ ایام پورے ہو جائیں تو غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ وہ اب دوسرے ماہ کے شروع تک طاہرہ سمجھی جائے گی۔ (۲)

(۱) حیض کی عام طور پر مدت، چھ یا سات دن ہوتی ہے۔

(۲) اس مسئلہ کی دلیل الحداؤد (۶۳/۱) اور نسائی (۱۰۲/۱) میں مروی یہ حدیث ہے جس کی سند حسن ہے "ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتویٰ پوچھا کہ ایک عورت کو مسلسل خون آ رہا ہے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لائق ہونے سے پہلے ان دنوں اور راتوں کو دیکھے کہ کتنے دن اسے ماہواری آتی تھی، لہذا ان کے حساب سے نماز چھوڑ دے اور جب وہ پورے ہو جائیں تو وہ غسل کرے اور لنگوٹی باندھ لے اور پھر نماز پڑھے۔

یہ حدیث اس مستفاضہ کے سلسلہ میں دلیل ہے جسکی کوئی عادت رہی ہو۔

اور رہا اس مستفاضہ کا مسئلہ جس کی متعین عادت نہ رہی ہو تو وہ حیض کی عمومی مدت کے بقدر ہر ماہ حیض کا شمار کرے گی اور اس کو پورا کر لینے کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھے، اس کی دلیل حضرت فاطمہ بنت جمیش رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ: حیض کا خون جب سیاہ ہو جائے تو نماز سے رک جائے اور اگر اس کے علاوہ ہو تو وضوء کرے (یعنی غسل کے بعد) اور نماز پڑھے، اس لئے کہ وہ رگ کا خون ہے۔ (رواہ الحداؤد ۶۶/۱ اور

نسائی ۱۰۲/۱)

(ب) نفاس :

اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے فوراً بعد یا اس سے ایک دو دن پہلے نکلتا ہے اس میں بھی حیض والی پابندیاں عائد رہیں گی، تاآنکہ اس کا خون آنا بند ہو جائے اگر ولادت کے ایک یا اس سے زیادہ دنوں کے بعد یہ خون آنا بند ہو جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے کیونکہ وہ پاک و صاف ہو گئی ہے۔ اور اگر خون جاری رہے تو نماز نہ پڑھے اور روزہ نہ رکھے کیونکہ وہ حالت نفاس میں ہے، اگر چالیس دن سے پہلے بند ہو جائے تو طہارت حاصل کر لے گی، ورنہ چالیس دن مکمل کرنے کے بعد غسل کر کے نماز وغیرہ شروع کر دے اگرچہ اس کے بعد بھی خون آئے (وہ نفاس کا نہیں ہے) یہ عورت کے دینی لحاظ سے زیادہ محتاط طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ساٹھ (۱) دنوں تک اس کے انقطاع کا انتظار کرے جو بعض اہل علم کے یہاں اکثر مدتِ نفاس ہے۔

(۱) نفاس کی اکثر مدت ماہگی و ثانی فہماء نے ساٹھ دن مقرر کی ہے۔

ممنوعات حیض و نفاس :

حیض و نفاس کے دوران بعض چیزوں کا انجام دینا ممنوع ہے جو مندرجہ ذیل ہیں .
۱ - نماز پڑھنا، خواہ فرض نماز ہو یا نفل .

۲ - روزہ رکھنا، مگر رمضان کے وہ روزے جو حیض و نفاس کی وجہ سے نہ رکھے تھے ان کی رمضان کے بعد حالت پاکیزگی میں قضاء کرنا واجب ہے . البتہ نماز کی قضاء نہیں ہے .

(۳) مسجد میں داخل ہونا، حدیث میں ہے کہ ، میں مسجد میں حیض و نفاس والی عورت کے داخلہ کو جائز نہیں قرار دیتا . (رواہ ابو داؤد ۱/۵۳۱ ، ابن ماجہ صفحہ ۲۱۲) (۴) قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اگر قرآن کے بعض حفظ کردہ حصے کو بھول جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے .

(۵) طواف کرنا " خواہ یہ حج یا عمرہ یا نفل طواف ہو، کیونکہ مسجد حرام میں عورت کا اس حالت میں داخل ہونا ممنوع ہے، مزید طواف کے لئے طہارت شرط ہے "

مسلمان عورت جب ماہواری کے آخری ایام میں ہو تو طلوع فجر سے پہلے رات ہی سے اپنا جائزہ لے اگر اس نے پاکیزگی محسوس کی تو غسل کرے اور مغرب کی اور عشاء کی نماز ادا کرے . اور اسی طرح طلوع آفتاب سے پہلے جائزہ لے اگر اس نے پاکیزگی اور صفائی دیکھی تو غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرے اور غروب آفتاب سے ایک گھنٹہ پہلے دیکھے اگر اس نے پاکیزگی محسوس کر لی تو

غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز ادا کرے۔ (۱)

اسی طرح دن و رات کے کسی وقت بھی عورت پاک و صاف ہو جائے تو فوراً غسل کرے اگر کسی نماز کا صرف اتنا وقت باقی ہو جس میں صرف ایک رکعت نماز ادا کر سکے گی تو وہ نماز اس پر واجب ہے ورنہ اس پر اداء و قضاء کوئی نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔

(۱) یہ مولف کی اپنی رائے ہے ورنہ جمہور علماء کے نزدیک طہارت سے قبل کی نماز کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ (مترجم)

نماز کا بیان

اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کا اول وقت میں ادا کرنا افضل ترین عمل ہے، اور اس کا چھوڑ دینا کفر ہے (۱) نماز کا ان کے اوقات میں قائم کرنا باعث ایمان اور اس میں کوتاہی و سستی کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور اس کی پابندی سے ادائیگی حصول جنت کا سبب ہے۔ اور نماز کی درستگی کی شرطوں میں سے ایک شرط وہ طہارت ہے جس کی معلومات آپ نے گزشتہ صفحات سے حاصل کر لی ہے، اور باقی دوسری شرطیں مندرجہ ذیل ہیں۔

شرائط نماز:

(۱) ستر پوشی کرنا، یعنی عورت نماز میں سر سے پیر تک ڈھکی ہوئی ہو، اگر اس نے سر یا گردن یا سینہ یا دونوں بازو یا دونوں پنڈلیوں کو کھول کر نماز ادا کی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔

(۱) صحیح حدیث میں ہے: آدمی اور شرک و کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔
(رواہ مسلم: ۶۲/۱)

ایک دوسری حدیث میں ہے، ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے جس نے نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا" (رواہ نسائی ۱/۱۸۷)

(۲) قبلہ کی طرف منہ کرنا، اگر قبلہ کا صحیح علم ہو تو، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی، اگر قبلہ کا علم نہ ہو تو جانتے والوں سے دریافت کیا جائے، اگر کوئی بتانے والا نہ ملے تو اپنے اجتہاد اور گمان غالب کی بنیاد پر نماز ادا کرے اور آپ کی یہ نماز صحیح ہوگی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ " فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ " (سورہ البقرہ: ۱۱۵)

ترجمہ: جس طرف تم رخ کرو، ادھر اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔

(۳) بدن، کپڑے، جگہ، کاپاک و صاف ہونا، جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

مذکورہ بالا چیزیں نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں تھیں، اس کے علاوہ نماز کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں یعنی نماز انسان پر اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک یہ شرطیں نہ پوری ہو جائیں جو یہ ہیں:

(۱) مسلمان ہونا: غیر مسلم سے نماز پڑھنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا تا آنکہ وہ مسلمان نہ ہو جائے اور غیر مسلم نہ تو مومن ہے اور نہ تو موحد بلکہ وہ کافر و مشرک ہے۔

(۲) عاقل ہونا: کیونکہ مجنون اور ناعاقل پر نماز واجب نہیں، تا آنکہ وہ شفا یاب ہو جائے (۱)

(۱) حدیث میں ہے: تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے تا آنکہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے تا آنکہ وہ بالغ ہو جائے اور مجنون سے تا آنکہ وہ عقل والا ہو جائے (رواہ ابو داؤد ۲: ۳۵۲، ترمذی ۲: ۳۲)

(۳) بالغ ہونا: یعنی بچہ جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو وہ شرعی طور پر مکلف ہو جائے گا، چنانچہ نماز اس پر واجب ہو جائے گی اور جو شخص اس کی عدم ادائیگی پر اصرار کرے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی۔

بلوغ کی علامات: بلوغ کی چند علامتیں ہیں، جو لڑکے اور لڑکیوں پر نمودار ہوتی ہیں، جو یہ ہیں:

(۱) حیض آنا: جب لڑکی کو حیض کا خون آجائے تو وہ بالغ سمجھی جائے گی اور اس پر نماز اور دوسری تمام شرعی پابندیاں واجب ہو جائیں گی۔

(۲) زیر ناف بال نکل آنا، جب زیر ناف بال نکل آئے وہ بالغ سمجھی جائے گی۔

(۳) احتلام ہونا: جس بچے کو احتلام ہو جائے اور منی کا اثر اپنے کپڑے پر دیکھے تو وہ بالغ سمجھا جائے گا۔

(۴) اٹھارہ سال کا ہوجانا (۱)

جب لڑکے یا لڑکیوں میں مذکورہ بالا علامتیں نہ پائی جائیں تو وہ مکلف نہیں سمجھے جائیں گے، لہذا انہیں نماز پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ

(۱) یہ سن بلوغ کو پہنچنے کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ بعض علماء نے پندرہ سال، عمر بتائی ہے، در حقیقت یہ عمومی حالات کا ایک اندازہ ہے، یعنی بچہ اس کے بعد ہی بالغ سمجھا جائے گا۔

دس سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں معمولی سا مارا جائے (۱) اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے پر مجبور کیا جائے تاکہ نماز پڑھنے لگیں یا انکار کرنے پر (کفرًا و حدًا) قتل کیا جائے۔

(۱) حدیث میں ہے کہ : اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب دس سال کے ہو جائیں تو (نہ پڑھنے پر) انکو مارا جائے، اور بستروں پر انہیں علاحدہ کر دیا جائے۔ رواہ احمد : ۲ /

۱۸۰ ۱۸۷

ارکان نماز

نماز کے چند ارکان ہیں جو درحقیقت اس کے فرائض ہیں، جن کی ادائیگی کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اور اجمالی طور پر اس کی معرفت ضروری ہے تاکہ فرائض اور غیر فرائض میں فرق کیا جاسکے، فرائض نماز کی ادائیگی ضروری ہے ورنہ نماز باطل ہو جائیگی۔ اور فرائض کے علاوہ واجبات نماز کو اگر بھول کر چھوڑ دیا ہو تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے کی جاسکتی ہے۔

فرائض نماز مندرجہ ذیل ہیں :

- (۱) نیت کرنا: یعنی نماز کا دل سے ارادہ اور اس کی تعیین کرنا۔
- (۲) تکبیر تحریمہ کہنا: یعنی سیدھے کھڑے ہو کر "اللہ اکبر" کہنا۔
- (۳) سورہ فاتحہ پڑھنا: "الحمد لله رب العالمین" آخر تک پڑھنا۔
- (۴) رکوع کرنا: پیٹھ جھکا کر دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے اوپر اعتدال و طمانیت سے رکھنا۔

- (۵) قومہ کرنا: رکوع سے سیدھے واطمینان سے کھڑا ہونا۔
- (۶) سجدہ کرنا: پیشانی اور ناک دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو اعتدال واطمینان سے زمین پر رکھنا۔
- (۷) جلسہ کرنا: اعتدال واطمینان سے سر اٹھانا اور بیٹھنا۔

(۸) سلام پکھیرنا: تشهد (۱) کے بعد بیٹھے ہوئے " السلام علیکم ورحمة اللہ
" کہنا

یہ نماز کے ارکان و فرائض کا اجمالی تذکرہ تھا اگر ان میں سے کسی کو
ترک کر دیا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی، الا وہ اس کی تلافی کر لے اور پھر سے
ادا کر لے۔

واجبات نماز اور اس کی موکدہ سنتیں:

نماز کے اندر فرائض کے علاوہ کچھ واجبات اور موکدہ سنتیں ہیں۔ رکن
اور واجب یا فرض اور سنت موکدہ میں فرق یہ ہے کہ رکن یا فرض کی تلافی سجدہ
سہو سے نہیں کی جاسکتی لیکن واجب چھوٹ جانے پر سجدہ سہو سے تلافی کی
جاسکتی ہے۔

واجبات نماز اور سنن موکدہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نمازوں
میں کوئی سورت یا چند آیتیں پڑھنا، اسی طرح فجر کی دونوں رکعتوں میں یہ پڑھنا
جبکہ وہ اطمینان و اعتدال کیساتھ کھڑا ہو۔

(۱) تشهد سے مراد یہ ہے " التحیات لله " سے لے کر، " وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " تک
پڑھنا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا " اللهم انی أعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر، ومن
فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال " اس طرح کی دعائیں تشهد آخر میں وارد ہوئی
ہے۔

(۲) تسمیح و تحمید کرنا، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑے ہو کر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، کہنا (۱)

(۳) رکوع میں "سبحان ربی العظیم" تین بار یا اس سے زیادہ کہنا اور سجدہ میں "سبحان ربی الاعلیٰ" تین بار یا اس سے زیادہ کہنا۔

(۴) تشهد پڑھنا "التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" کو ظہر و عصر و مغرب اور عشاء میں پہلی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے دوران پڑھنا۔

(۵) درود پڑھنا: یعنی "اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید"

(۱) ان کلمات کا اضافہ مستحب ہے "حمداً كثيراً طیباً مبارکاً فیہ، کما یحب ربنا ویرضی، یا ملی ء السموات و ملی ء الارض و ملی ء ما بینہما، ملی ء ما شئت من شی ء بعد، اهل التناء والمجد احق ما قال العبد، وکلنا لک عبد، اللهم لا مانع لما اعطیت، ولا معطى لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد۔"

کو دوسرے تشہد میں بیٹھ کر سلام سے پہلے پڑھنا۔ (۱)
 (۶) مغرب اور عشاء اور فجر کی پہلی دو رکعتوں میں باواز بلند قراءت کرنا۔
 (۷) ظہر اور عصر اور مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری دو رکعتوں میں
 آہستہ سے قراءت کرنا۔
 مذکورہ بالا چیزوں میں سے کوئی چیز اگر سہوا چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی
 تلافی کی جاسکتی ہے۔

مستحبات نماز اور غیر موکدہ سنتیں :
 نماز کی وہ سنتیں جس کے سہوا چھوٹ جانے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی،
 یہ ہیں۔

(۱) رفع یدیں کرنا : تکبیر اور رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت اور دو
 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، اور دونوں ہاتھوں کو
 حالت قیام میں سینے پر رکھنا۔

(۲) ثنا پڑھنا : یعنی " سبحان اللہم وبحمدک ، وتبارک اسمک وتعالی
 جدک ولالہ غیرک "۔

(۱) اس کے علاوہ بھی درود و سلام کے صیغے ثابت ہیں لیکن مذکورہ کلمات زیادہ جامع ہیں۔

(۳) استعاذہ کرنا، یعنی نماز کی پہلی رکعت میں آہستہ سے "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" پڑھنا، اور بسمہ کہنا، یعنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھتے وقت خواہ وہ جہری ہو یا سری، آہستہ سے "بسم اللہ الرحمن الرحيم" پڑھنا۔

(۴) آمین کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد معمولی آواز سے آمین کہنا۔

(۵) فجر کی نماز میں بڑی اور ظہر اور عشاء میں درمیانی اور عصر اور مغرب میں چھوٹی سورتیں پڑھنا۔

(۶) دونوں سجدوں کے درمیان حالت جلوس میں "رب اغفر لی، وارحمنی، وعافنی، واهدنی، وارزقنی" پڑھنا۔

(۷) دوسرے تشہد کے بعد ان چار چیزوں سے پناہ مانگنا۔ "اللهم انی اعوذ بک من نار جہنم، وأعوذ بک من عذاب القبر، ومن فتنة المحیا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال"

یہ وہ سنتیں (۱) ہیں جس کے چھوٹ جانے سے سجدہ سو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن انھیں ادا کرنا اجر عظیم کا باعث ہے۔ اس لئے ہر مسلمان خاتون کو اس کی پابندی کرنا چاہئے۔

(۱) مذکورہ بالا سنتیں چاہے موکدہ ہوں یا غیر موکدہ صحیح و حسن حدیثوں سے ثابت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نشان دہی کرتی ہیں۔

نماز کے بعد کی بعض سنتیں :

نماز کے ادا کرنے کے بعد بعض غیر موکدہ سنتیں ثابت ہیں، جن کے ترک کرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس کے کرنے سے نماز کے اجر و ثواب میں اضافہ نہیں ہوتا، البتہ اس کو کرنے والا مزید اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں :

(۱ - ۲) اذان و اقامت (۱) کہنا، جو آہستہ سے کہنا چاہے، اگر کسی شخص نے بغیر اذان و اقامت کے نماز ادا کر لی تو کوئی حرج نہیں۔

(۳) سلام پھیرنے کے بعد تین بار "أستغفر الله" کہنا۔

(۴) سلام پھیرنے کے بعد تین بار "اللهم انت السلام، ومنك السلام، وتباركت وتعاليت يا ذو الجلال والاکرام" کہنا۔

(۵) سلام کے بعد "اللهم اعنى على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک" پڑھنا۔

(۶) سلام کے بعد "لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير" پڑھنا، اور اس سے پہلے "سبحان الله، الحمد لله، والله اکبر" ۳۳ مرتبہ پڑھنا۔

(۱) اقامت کے کلمات اذان ہی جیسے ہیں مگر "قد قامت الصلاة" کے علاوہ وہ اکبریٰ کہی جاتی ہے۔

(۷) آیت الکرسی (۱) سورہ الاحلاص اور معوذتیں پڑھنا .

سجدہ سہو کا بیان :

خاتون اسلام جب آپ نے یہ جان لیا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض نماز میں کسی فرض کو چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور وہ نماز دوبارہ ادا کرے اگر کسی نے واجبات نماز میں سے کسی واجب کو سہواً ترک کر دیا تو اس کی تلافی کے طور پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے اور اس سے اس کی نماز صحیح ہو جائیگی ، اس کی چند شکلیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئیں اور رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد آپ کو یاد آیا تو آپ لوٹ کر پھر کھڑی ہو جائیے اور سورہ فاتحہ اور پھر سورہ پڑھیں ، اگر دوسری رکعت میں یہ خیال آیا کہ آپ نے (پہلی رکعت میں) سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے تو آپ اس دوسری رکعت کو پہلی رکعت شمار کیجئے اور پہلی رکعت کو کالعدم تصور کیجئے جس میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے ، پھر

(۱) مختلف سندوں سے ثابت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھ لیا اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی . رواہ نسائی والطبرانی .

آپ اپنی نماز مکمل کیجئے اور سلام سے پہلے (۱) یا اس کے بعد دو سجدے کیجئے پھر سلام پھیریئے .

(۲) اگر آپ نے ایک رکعت یا ایک سجدہ بھول کر چھوڑ دیا پھر دوسری رکعت میں آپ کو یاد آیا تو آپ پہلی کو کالعدم قرار دیجئے اور اپنی نماز مکمل کیجئے اور پھر سہو کے دو سجدے کر کے سلام پھیریئے، اگر آپ کو تشہد میں یہ یاد آیا کہ آپ نے ایک ہی سجدہ کیا ہے تو اسی وقت وہ بھولا ہوا سجدہ کر لیجئے اور تشہد مکمل کر کے سہو کے دو سجدے کر لیجئے اور سلام پھیریئے، اور انشاء اللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی .

(۳) اگر آپ سورہ پڑھنا یا " سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولك الحمد " کہنا، یا دو رکعتوں کے بعد تشہد اول میں بیٹھنا اور یا رکوع اور سجدہ کی تسبیحات بھول جائیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد سجدہ سہو کر لیجئے پھر دونوں طرف سلام پھیریئے اور اس طرح آپکی نماز درست ہو جائے گی .

(۱) ان دو سجدوں کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ سلام سے پہلے ہوں یا اس کے بعد. بعض مرتبہ سلام سے پہلے اور بعض مرتبہ بعد میں ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں سب سے معتدل رائے یہ ہے کہ اگر نمازی غلطی سے نماز میں کوئی اضافہ کر دے تو سجدہ سہو سلام کے بعد کرے اور اگر کوئی نقص یا کمی کر دے تو سلام سے پہلے کرے، اگر دونوں چیزوں کا ارتکاب کرے تو اسے اختیار ہے چاہے سلام سے پہلے کرے یا سلام کے بعد کرے .

(۴) اگر آپ نے بھول کر ایک رکعت یا ایک سجدہ زیادہ کر لیا یا (سری نماز میں) قراءت باواز بلند کر لیا پھر آپ کو اس کا خیال آیا تو آپ سلام کے بعد سہو کے دو سجدے کر لیجئے پھر دوبارہ سلام پھیرئے اس طرح انشاء اللہ آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔

طریقہ نماز:

خاتون اسلام جب اپنے نماز کے فرائض واجبات اور سنتوں کی تفصیل طور پر معرفت حاصل کر لی تو لیجئے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیجئے، سب سے پہلے پاک و صاف کپڑے پہنئے، اپنے بدن کو اچھی طرح ڈھاک کر قبلہ رخ ایسی جگہ کھڑی ہو جائیے جو پاک ہو، پھر مندرجہ ذیل چیزیں کیجئے:

(۱) "اللہ اکبر" کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیے اور جس نماز کی نیت ہو چاہے وہ فرض ہو یا نفل اس کی دل میں نیت کریں:

(۲) پھر دعاء استفتاح پڑھیں جو یہ ہے "سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔"

(۳) پھر "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھ کر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورہ پڑھیں۔

(۴) پھر "اللہ اکبر" کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھا کر رکوع کریں اپنی پیٹھ کو سر کے ساتھ سیدھی رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور تین بار یا اس سے زیادہ مرتبہ "سبحان ربی العظیم" کہیں .

(۵) پھر "سمع اللہ لمن حمدہ ، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی" کہتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں .

(۶) پھر "اللہ اکبر" کہتے ہوئے سجدہ میں چلی جائیں اور سات اعضاء پیشانی، ناک سمیت، دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو زمین پر رکھ کر سجدہ کریں . اور حالت سجدہ میں تین بار یا اس سے زیادہ مرتبہ "سبحان ربی الاعلیٰ" کہیں، اور جو چاہیں دعا مانگیں .

(۷) پھر "اللہ اکبر" کہتے ہوئے سر سجدہ سے اٹھائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ کر یہ دعا پڑھیں . "رب اغفر لی وارحمنی، وعافنی، واہدنی وارزقنی" اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے عافیت عطا فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا اور مجھے رزق عطا فرما .

(۸) پھر دوسری رکعت کے لئے "اللہ اکبر" کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیں اور سیدھی کھڑی ہو کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں .

(۹) پھر اب ٹھیک اسی طرح اپنی نماز مکمل کریں جس طرح پہلی رکعت آپ نے ادا کی تھی .

(۱۰) دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ بالکل اسی طرح بیٹھ جائیں جیسے دو سجدے کے درمیان بیٹھی تھیں پھر یہ تشہد پڑھیں۔

"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"

(۱۱) اگر نماز دو رکعت والی جیسے، فجر، جمعہ، اور عیدین کی نماز ہے تو بدستور بیٹھے رہیں اور تشہد کی تکمیل اس درود شریف سے کریں۔

" اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما

باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد" (۱)

(۱۲) مغرب کی تیسری اور ظہر، عصر، عشاء کی دونوں آخر رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورہ نہ پڑھیں۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز ہے جس طرح آپ نماز پڑھا کرتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے اور نماز کے ایک اہم رکن خشوع و خضوع کو نہ بھولئے جو نماز کی روح ہے۔ ارشاد باری ہے " قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" (المؤمنون : ۱)

(۱) فقرہ نمبر ۱۰-۱۱ طریقہ نماز کی تکمیل کے طور پر مترجم کی طرف سے اضافہ ہے۔ (سعید احمد)

مفسدات نماز:

نماز اگر تمام شرائط، واجبات، ارکان، اور سنتوں کو ملحوظ رکھ کر ادا کی جائے تو وہ صحیح ہوگی جس سے نفس کا تزکیہ اور دل کی پاکیزگی حاصل ہوگی بشرطیکہ یہ نماز بعض مفسدات کے ارتکاب سے فاسد نہ کی جائے۔

مفسدات نماز بہت سی چیزیں ہیں، جو یہ ہیں:

- (۱) کلام کرنا، جو ذکر اللہ کے علاوہ قصد کیا جائے (۱) اگر سہواً کچھ کہ دیا تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی اور نماز فاسد نہیں ہوگی۔
- (۲) قہقہہ لگا کر ہنسنے، مسکراہٹ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔
- (۳) کھانا، اگرچہ کھجور یا اس سے بھی کم چیز ہو۔
- (۴) پینا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہو۔
- (۵) عمل کثیر کرنا، محض حرکت سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ (۲)
- (۶) حالت نماز میں وضوء کا ٹوٹ جانا۔

(۱) حدیث میں ہے: نماز کے دوران کلام الناس کے قبیل سے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔
 (۲) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عائشہؓ کے پیرو کو سجدہ کرتے وقت حرکت دیتے تھے تاکہ وہ جائے سجدہ سے دور کر لیں، (رداہ مسلم: ۲/۷۰، بخاری ۱/۱۰۲) اسی طرح آپؐ نے امدہ کو نماز کی حالت میں گود لے لیا تھا (بخاری: ۱/۱۳۰)

(۷) حالت نماز میں، اس نماز سے قبل کی نماز کا نہ پڑھنا یاد آجائے مثلاً عصر کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو یاد آیا کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، لہذا وہ عصر کی نماز توڑ دے اور ظہر کی نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے۔

(۸) دوران نماز یہ یاد آجائے کہ وہ با وضو نہیں ہے۔

(۹) رکوع، سجدہ، اور قیام، قعود کو اعتدال و اطمینان سے نہ ادا کرنا۔ (۱)

(۱۰) قبلہ سے بہت زیادہ پھر جانا، اور اس کی طرف پیٹھ کر لینا۔

مکروہات نماز:

خاتون اسلام نماز کے کچھ مکروہات ہیں، جن کے ارتکاب سے نماز کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس لئے آپ ان مکروہات کے ارتکاب سے اجتناب کیجئے جو یہ ہیں:

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعرابی سے یہ فرمانا جس نے اپنی نماز اطمینان و سکون سے نہیں پڑھی تھی: نماز ادا کرو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں ادا کی اور یہ بات تین مرتبہ فرمائی: اس کے بعد اس دہائی نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کیساتھ معبود فرمایا میں اس سے اچھی نماز پڑھتا نہیں جانتا۔ لہذا مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے رکوع و سجود اور قیام و قعود میں اطمینان و اعتدال سے کام لے۔ (یعنی جلدی جلدی نماز نہ ادا کرے) بخاری ۸/۱۶۹ و مسلم: ۱۰/۲ - ۱۱

- (۱) دوران نماز نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا۔ (۱)
- (۲) دوران نماز ادھر ادھر دیکھنا۔ (۲)
- (۳) نماز میں تحضر کرنا، یعنی ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہونا۔ (۳)
- (۴) بال یا کپڑا یا آستین وغیرہ بغیر بندھے یوں ہی ٹٹکا کر نماز پڑھنا۔ (۴)
- (۵) انگلیاں چٹکانا۔ (۵)
- (۶) سجدہ گاہ سے ایک سے زائد مرتبہ کتکریاں ہٹانا۔ (۶)

(۱) حدیث میں ہے: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، انہیں اس سے رک جانا چاہیے، یا پھر ان کی بیٹلی کو اچک لیا جائے گا۔
 (۲) اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ تو پھرنا ہے یہ وہ شیطان کا حصہ ہے جسے وہ بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔

(۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور عورت بھی اس حکم میں مرد کی طرح ہے۔ (بخاری ۲/۸۰)
 (۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ بال اور کپڑے کو ہٹاؤں (مسلم: ۵۲/۲)

(۵) حدیث میں ہے کہ: حالت نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹکاؤ۔ (ابن ماجہ صفحہ ۳۱۰)
 (۶) حدیث میں ہے کہ: جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو کتکریاں نہ ہٹائے، اگر کسی کو ہٹانا ہی پڑ جائے تو صرف ایک مرتبہ ہٹائے۔ (رواہ ابوداؤد ۱/۲۱۷)

- (۷) رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا. (۱)
- (۸) داڑھی یا انگوٹھی، یا کپڑے سے نماز میں کھیلنا. (۲)
- (۹) دونوں بری چیزیں یعنی پیشاب و پاخانہ کو روک کر نماز پڑھنا. (۳)
- (۱۰) کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا.
- (۱۱) ایسی نشست اختیار کرنا جس میں دونوں سرین زمین سے لگلی جائیں، اور دونوں پنڈلیاں کھڑی کر لی جائیں اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر کتے جیسا بیٹھا جائے. (۴)

-
- (۱) حدیث میں ہے کہ: مجھے حالت رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. (۳۸/۲)
- (۲) حدیث میں ہے کہ: نماز میں سکون و طہارت اختیار کرو. (مسلم: ۲۹/۲)
- (۳) حدیث میں ہے کہ: جب کھانا موجود ہو اور جب پیشاب و پاخانہ کا تقاضا ہو تو نماز (مکمل) نہیں ہوتی. (مسلم: ۷۸/۲ - ۷۹)
- (۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بیٹھک اور درندوں جیسا باہوں کو بچھا کر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے. (رواہ مسلم: ۵۴/۲)

اوقات نماز: (۱)

خاتون اسلام، نماز کی ادائیگی کے لئے کچھ متعین اوقات ہیں، جس سے نہ پہلے نماز پڑھی جاسکتی ہے اور نہ بعد میں۔ نماز کے ان مقررہ اوقات کو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فجر کی نماز طلوع صبح صادق کے فوراً بعد پڑھائی، پھر نازل ہوئے اور ظہر کی نماز زوال آفتاب کے بعد پڑھائی، پھر نازل ہوئے اور عصر کی نماز اسوقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، پھر نازل ہوئے اور مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھائی، پھر نازل ہوئے اور عشاء کی نماز سرخ دھاری کے زائل ہوجانے کے بعد پڑھائی، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام دوسرے دن اس وقت تشریف لائے جب خوب اجالا ہو گیا تھا، اور فجر کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، پھر نازل ہوئے اور ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا۔ پھر وہ عصر کی نماز کے لئے اسوقت آئے جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو گیا تھا اور پھر فرمایا کہ اٹھئے اور عصر کی نماز ادا کیجئے اور پھر مغرب کی نماز کے لئے ایک ہی وقت میں

(۱) اوقات وقت کی جمع ہے جسکے معنی، وقت محدود کے ہیں، متعین وقت پر نماز کی ادائیگی کے سلسلہ میں دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" (النساء: ۱۰۳)

تشریف لائے (یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد) پھر عشاء کی نماز کے لئے اس وقت آئے جب رات کا ایک تہائی یا آدھی رات کا حصہ گزر چکا تھا اور فرمایا کہ اٹھیے اور عشاء کی نماز ادا کیجئے، پھر اس کے بعد فرمایا، آپکی نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہیں۔ (۱)

حضرت جبریل علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ نماز کے دو وقت ہیں، ایک اختیاری، دوسرا ضروری اول وقت میں نماز پڑھنا اختیاری ہے اور آخر وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں اگر نماز کو موخر کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے تو اسے اول وقت میں ادا کرے اور جب کوئی مجبوری پیش آجائے تو آخر وقت تک موخر کر سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔

قضاء نماز :

اگر کوئی سو جائے یا بھول جائے کیوجہ سے نماز نہ پڑھ سکے اور اس کا وقت نکل جائے تو وہ ساقط نہیں ہوتی بلکہ اس کا فوراً بغیر کسی تاخیر کے قضا کرنا واجب ہے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کی قضا کرے، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے :

(۱) رواہ ابو داؤد ۸/۹۳، ترمذی ۱/۲۷۹ و سلم ۲/۱۰۶ حدیث مروی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کسی سائل کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوقات نماز بتائے تھے۔

" جو کوئی نماز سے سوتا رہے یا اسے پڑھنا بھول جائے، تو اسے جب وہ یاد آجائے تو وہ پڑھ لے، کیونکہ اس کا کفارہ بس یہی ہے " (۱)

اور نماز کا جان بوجھ کر ترک کر دینے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے " ہمارے اور ان (کافروں) کے مابین نماز کا فرق ہے جس نے اسے ترک کر دیا اس نے کفر کیا " (۲) کافر قرار دیا جائے گا۔

اسی وجہ سے علماء اسلام کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دینے والے شخص سے قضاء نماز قبول کی جائے گی یا نہیں جو اس کی صحت و قبولیت کا قائل ہے اس نے قضاء کرنے کا حکم دیا اور جو اس کی نماز کی صحت و قبولیت کا قائل نہیں ہے اس نے قضاء نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور ہم یہ کہتے ہیں " جو شخص نماز کی قضاء کرنے میں سرگرم رہا اور بحسن و خوبی نماز کی قضاء کرتا رہا تو اس کو اسکا فائدہ پہنچے گا۔ اور جس نے قضا نہیں پڑھی اور صرف توبہ و استغفار پر اکتفاء کرتا رہا اور کثرت سے نوافل پڑھتا رہا تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اگر اس کی توبہ قبول ہوگئی تو وہ کامیاب ہوگا اور حسن خاتمہ سے مشرف ہوگا۔

(۱) مسلم : ۱۲۲/۲ ، بخاری : ۱۲۶/۱ جس میں صرف لیان کا ذکر ہے۔

ابو داؤد : ۱۰۳/۱ ، ۱۰۵ ، ترمذی : ۳۳۵/۱ ، نسائی : ۳۳۸/۱۔

(۲) ترمذی : ۱۳/۵ ، ۱۴ ، نسائی : ۱۸۷/۱۔

اقسام نماز:

نماز کی چند قسمیں ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ فرض، وہ پانچ نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔
- ۲۔ واجب (۱) جو یہ ہیں: نماز عیدین، نماز استسقاء، نماز کسوف شمس، نماز خسوف قمر، نماز وتر۔

۳۔ سنن موکدہ (۲) وہ یہ نمازیں ہیں، ظہر سے پہلے دو رکعت، اور دو رکعت اس کے بعد، عصر سے پہلے دو رکعت، مغرب کے بعد دو رکعت، عشاء کے بعد دو رکعت اور دو رکعت فجر سے پہلے، اور یہ سب سنت موکدہ ہے۔

تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں جو بیٹھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔

۴۔ نوافل مقیدہ (محدودہ): جیسے چاشت کی نماز جس کی کم سے کم تعداد دو رکعت اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعت ہے۔ وضو کے بعد دو رکعت، مغرب سے پہلے دو رکعت ماہ رمضان میں تراویح کی نماز، اور صلاۃ حاجت جو مسلمان دو رکعت پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔

(۱) بعض فقہاء اسے واجب کہتے ہیں، لیکن سنت موکدہ کہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ فرائض خمسہ کے علاوہ ہیں۔

(۲) یہ سنتیں تحدید اور بدون تحدید کے مختلف صحیح و حسن حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم ان کی تفصیلات سے بحث نہیں کر رہے ہیں، جو جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔

۵۔ نوافل مطلقہ (عامہ) جو مسلمان رات و دن کے کسی حصے میں بھی بغیر تعیین و تحدید پڑھتا ہے اور جو مذکورہ بالا نمازوں کے علاوہ ہیں۔

جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا منع ہے

خاتون اسلام بعض اوقات ایسے ہیں جسیں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ وہ یہ ہیں :

۱۔ فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے ایک نیزے کے بقدر طلوع ہونے تک۔

۲۔ زوال آفتاب کے وقت (۱) تا آنکہ زوال شروع ہو جائے اور ظہر کا وقت داخل ہو جائے۔

۳۔ عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہو جانے اور مغرب کا وقت شروع ہو جانے تک۔ جہاں تک تحیۃ المسجد پڑھنے کا مسئلہ ہے تو وہ ان اوقات میں پڑھی جاسکتی ہے سوائے طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

" جو شخص تم میں سے مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھے "

(رواہ بخاری ۶۷/۲، و مسلم: ۲۰۷/۲)

(۱) جمعہ کا دن اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ جمعہ کے وقت مسجد میں داخل ہو تو جو اللہ نے اس کے لئے لکھا ہے وہ پڑھ لے چاہے کوئی بھی وقت ہو۔

اسی طرح حدیث میں ہے کہ " اس نماز کے متعلق طلوع شمس اور اس کے غروب کا خیال نہ رکھو۔ رواہ بخاری: ۱/۱۳۳۔ مسلم ۲/۲۰۷

نماز جمعہ :

خاتون اسلام جمعہ کی نماز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں ہوا ہے :
 " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَوَدَىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَذَرُوا الْبَيْعَ " (جمعہ : ۹)

ترجمہ : اے ایمان والو، جب نماز کے لئے جمعہ کے دن پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف سبقت کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔

جمعہ کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ صرف مردوں پر واجب ہے۔
 جمعہ کی نماز ادا کرنے والے کے لئے مسنون ہے کہ غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے جلدی جانا مستحب ہے۔

عورتیں اگر نماز جمعہ میں حاضر ہوں تو ان کی نماز صحیح ہوگی اور اگر نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں اور انھیں اس کے بدلے میں ظہر کی چار رکعت پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ فرض ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھنے کے لئے، جمعہ کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرے، بلکہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔

نماز جماعت :

خاتون اسلام جمعہ کی نماز کی طرح ، نماز باجماعت بھی عورتوں کے علاوہ صرف مردوں پر واجب ہے . اور یہ ستائیس ۲۷ درجہ فضیلت رکھتی ہے ، بایں ہمہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے ، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے .

"عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ، مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے (۱) ہاں اگر مسجد میں آنے میں کوئی قباحت نہ ہو جیسے مردوں کا ازدحام یا عورتوں سے چھیڑ خوانی کرنے والے اوباشوں کی موجودگی یا چوروں کا خوف ، تو آپ مسجد حاضر ہو کر جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہیں . عورتیں گھر کے اندر ہی بعض دوسری خواتین اور اہل خانہ کے ساتھ مل کر نماز باجماعت کر سکتی ہیں اور ان میں امامت کرنے والی عورت صف کے درمیان میں کھڑی ہو ، اور قراءت و تکبیر وغیرہ باواز بلند کے بجائے آہستہ سے کہے .

(۱) بروایت البداؤد ۱/۱۳۳ حاکم ۱/۲۰۹ حدیث صحیح ہے ، حدیث کی پوری عبارت یہ ہے "عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ، حجرہ میں نماز پڑھنے سے افضل ہے ، اور اپنی کوٹھری میں پڑھنا کرے سے افضل ہے . مسند فردوس میں ابن عمر سے مروی ہے کہ عورت کا تما نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنے سے پچیس درجہ افضل ہے ، امام سیوطی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے .

نماز مسافر: (۱)

خاتون اسلام! جب کوئی عورت سفر کی نیت سے اپنے شہر سے باہر نکل جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے نماز میں قصر کرنا چاہئے۔ قصر کہتے ہیں، چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھنا جیسے۔ ظہر، عصر، عشاء کی نماز ہے۔ البتہ دو یا تین رکعت والی نماز میں قصر نہیں ہے۔ جیسے فجر اور مغرب کی نماز ہے، قصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب چار دن سے کم قیام کرنے کا ارادہ ہو، اگر چار دن یا اس سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو تو نماز پوری پڑھی جائے گی اور قصر نہ کی جائے گی۔ اگر کسی جگہ چار دن کے قیام کی نیت نہ کر سکی اور کسی وجہ سے ایک ماہ یا اس سے زیادہ قیام کر لیا تو قصر کرتی رہے گی تا آنکہ اپنے وطن لوٹ آئے۔

اسی طرح حالت سفر میں اور شدت مرض میں جمع بین الصلاتین بھی جائز ہے، چنانچہ ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ، جمع تقدیم اور جمع تاخیر کر کے پڑھ سکتیں ہیں، یعنی اگر چاہے تو ظہر و عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیجئے یا عصر کے وقت میں پڑھ لیجئے، اسی طرح مغرب و عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھ لیجئے یا عشاء کے وقت میں پڑھ لیجئے۔

(۱) نماز کو قصر کرنے کے سلسلہ میں صحیح حدیثیں ہیں اور قرآن کریم میں ہے "واذا ضربتم فی

الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة" (النساء ۱۰۱)

ترجمہ: اور جب تم زمین پر سفر کرو تو تم پر اس باب میں کوئی مضائقہ نہیں کہ نماز میں کمی کر دیا کرو۔ قصر کرنا سفت ہے، اور جمع کرنا ایک رخصت ہے جو یوقت ضرورت کیا جاتا ہے، سوائے مزولہ و عرفات کیونکہ وہ رخصت کے بجائے عزیمت ہے۔

نماز مریض :

خاتون اسلام، مرض میں مبتلا عورت اپنی طاقت و قدرت کے مطابق نماز ادا کرے، اگر کھڑی ہو کر پڑھ سکتی ہے تو کھڑی ہو کر پڑھے، اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اور اس پر بھی قادر نہ ہو تو لیٹ کر یا پہلو پر حسب طاقت و استطاعت نماز ادا کرے۔

یہ مسئلہ فرض نماز کے متعلق ہے جس میں قیام کرنا واجب ہے اور جہاں تک نفل نمازوں کی بات ہے تو اسے اجازت ہے کہ چاہے وہ کھڑی ہو کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے میں پورا اجر ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں صرف آدھا اجر ملے گا۔

احکام میت اور نماز جنازہ

خاتون اسلام، وفات سے پہلے اور اس کے بعد کے کچھ احکام و مسائل ہیں جن کی معلومات رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہیں :

(۱) مریض کی عیادت کرنا مسنون ہے، جب آپ کا کوئی عزیز واقارب بیمار ہو تو آپ اپنے شوہر سے اگر شادی شدہ ہوں تو، اجازت لے کر اس کی عیادت کریں کیونکہ یہ حقوق مسلم میں سے ایک حق ہے۔

(۲) جب مریض حالت نزع میں ہو جائے، تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دینا مستحب ہے، اور اسے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی تلقین کی جائے اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کو کسی کپڑے سے ڈھانک دیا جائے اور اس سے حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے متعلق کلمہ خیر کہا جائے، جیسے یہ دعاء "اللهم اغفر له وارحمه"

(۳) میت کو اچھی طرح غسل دینا واجب ہے جس میں اس کے پورے جسم کو پانی اور صابن سے دھو کر صاف کیا جائے، پھر اسے خوشبو لگائی جائے خاص طور پر پیشانی پر مل دیا جائے۔

(۴) میت کو کفن میں لپیٹنا واجب ہے، عورت کو پانچ کپڑے سے اور مرد کو تین کپڑے سے کفن دیا جائے۔ (۱)

(۵) عورت کو عورتیں غسل دیں، اگر شوہر اپنی بیوی کو غسل دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۶) اگر کوئی عورت ایسی جگہ فوت ہو گئی جہاں غسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو یا اس کے برعکس صورت حال ہو تو میت کے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو مٹی سے تیمم کرا دیا جائے اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا جائے۔

(۷) عورت جنازے کے پیچھے نہ چلے کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے ”ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے اور ہم پر یہ ضروری بھی نہیں ہے (مسلم: ۳/۳۷۷)“

(۸) عورت اسی طرح نماز جنازے پڑھے گی جس طرح مرد پڑھتا ہے، اور اسے بھی مرد جیسا اجر و ثواب ملے گا، نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگ شریک ہو جائیں تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے اور انھیں عدم شرکت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(۱) ایسا کرنا مستحب ہے ورنہ تو واجب صرف اتنا بڑا کپڑا ہے جس سے میت کا سر اور پیر چھپ جائے اگر اس سے زیادہ استعمال کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا اسی لئے سفید کپڑا استعمال کرنا مستحب ہے۔

(۹) میت کو غسل دینے کے بعد تکفین و تدفین کرنا اور نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، عورت کو قبر میں اس کا کوئی محرم اتارے، اگر محرم نہ ہو تو کسی دوسرے کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۰) نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے: میت کو کسی تخت پر لٹایا جائے، امام اس کے پیچھے کھڑا ہو، اور لوگ اس کے پیچھے صف بندی کریں پہلے مردوں کی صف ہو پھر اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوں۔ نماز جنازہ کی نیت کرے۔ امام اللہ اکبر کہے، پھر لوگ اللہ اکبر کہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ پھر تکبیر کہے اور لوگ تکبیر کہیں، پھر درود شریف پڑھے اور لوگ بھی درود پڑھیں، پھر میت کے لئے یہ دعاء کرے " اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وقه من فتنۃ القبر وعذاب جہنم " پھر تکبیر کہے اور لوگ بھی تکبیر کہیں اور پھر سلام پھیرے اور لوگ بھی سلام پھیریں۔

(۱۱) میت کے اہل خانہ کی تعزیت کرنا مستحب ہے اسوقت میت اور ان کے لئے دعاء اسطرح کرے، اعظم اللہ اجرک، واحسن عزاء ک وغفرلمیتک، اس کے جواب میں اہل میت اسطرح کہیں: أجرک اللہ ولا اراک مکروہا۔

(۱۲) میت پر نوحہ خوانی کرنا حرام ہے اسی طرح چہرہ نوچنا، گریبان پھاڑنا (۱) وغیرہ جیسی حرکات کرنا بھی حرام ہے، بغیر آواز بلند کئے رونا جائز ہے اسی طرح عمگین، دلگیر ہونا بھی جائز ہے (۲) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: " آنکھیں اٹکبار ہیں اور دل عمگین ہے اور ہم وہی کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے"

(۱۳) تین رات سے زائد سوگ منانا حرام ہے (۳) سوائے (اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا) وہ چار ماہ دس ۱۰ دن (سوگ منائے) اس کا سوگ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ جائے سوائے ضرورت کے نہ نکلے۔ سرمانہ لگائے، زیب وزینت کا لباس نہ پہنے، اور مندی وغیرہ نہ استعمال کرے تا آنکہ مدت عدت گزر جائے۔

(۱) حدیث میں ہے " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے رونے اور سر منڈانے اور گریبان پھاڑنے والی سے بری ہیں۔ بروایت بخاری ۹۹/۲ - مسلم: ۷۰/۷

(۲) حدیث میں ہے، آنکھیں اٹکبار ہیں، اور دل حزین ہے، اور ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے عمگین ہیں، بخاری: ۱۰۱/۲ مسلم ۷۹/۷

(۳) حدیث میں ہے: کسی آدمی کے لئے جائز نہیں جو اللہ اور یومِ آخرت ایمان رکھتا ہو کسی میت پر تین دن سے زائد سوگ منائے البتہ (ہوی) شوہر پر چار ماہ دس ۱۰ دن سوگ منائے۔ (بخاری: ۹۵/۲ - مسلم: ۲۰۲/۲)

زکاۃ کا بیان

اسلام کا تیسرا رکن زکاۃ ہے، زکوٰۃ نماز جیسا ایک فریضہ ہے (۱) اس شخص کی نماز شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی جس نے زکاۃ ادا نہیں کی، بندہ اس وقت مسلمان نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ زکاۃ کی فرضیت کا اقرار نہ کرے، اور زکاۃ کی ادائیگی اس وقت ضروری ہوتی ہے جب مال نصاب کو پہنچ جائے۔

مسائل زکاۃ:

نقدین یعنی سونے و چاندی یا اس کے قائم مقام جو بھی عالمی کرنسیاں آج کل رائج ہیں اس میں زکاۃ واجب ہے۔
اسی طرح اناج، پھل، جانوروں جیسے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ میں بھی زکاۃ واجب ہے۔

(۱) حدیث میں ہے، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکاۃ کا ذکر آیا ہے چنانچہ اس طرح کی آیتیں "اقیموا الصلاة واتوا الزکاۃ" بے شمار ہیں۔

جب کوئی عورت ستر گرام سونا (۱) یا چار سو ساٹھ گرام چاندی یا ان دونوں چیزوں کے بمقدار کسی کرنسی کی مالک ہو جائے تو اس پر زکاۃ واجب ہو جاتی ہے، لہذا وہ اس میں سے ڈھائی فیصد کے بقدر زکاۃ نکالے، جسے چالیسواں حصہ بھی کہتے ہیں۔

اور جو شخص پانچ وسق (۲) اناج یا کھجور، کامالک ہو تو اس پر زکاۃ واجب ہو جاتی ہے، لہذا جو پیداوار بغیر کسی مشقت و محنت کے حاصل ہو اس میں دسواں حصہ اور جس کی پیداوار میں محنت و مشقت شامل ہو جیسے کنویں وغیرہ سے پانی نکال کر سینچائی کی گئی ہو تو اس میں سے اس کا بیسواں حصہ زکاۃ نکالے۔

جانوروں کی زکاۃ:

اونٹ کی زکاۃ: جس شخص کے پاس پانچ اونٹ ہوں اس پر ایک بکری زکاۃ میں دینا واجب ہے، مزید تفصیل یہ ہے، ۱۰ سے چودہ تک دو بکریاں ۱۵ سے ۱۹ تک تین بکریاں (۳) ۲۰ سے ۲۳ تک چار بکریاں ۲۵ سے ۳۵ تک اونٹ کا ایک

(۱) ستر گرام ہمیں اسلامی دینار یا مثال کے تقریباً برابر ہوتا ہے (ہمارے برصغیر میں اس کی مقدار ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی نکلی گئی ہے، سعودی بعض علماء نے اس کی مقدار ۸۵ گرام یا ۹۲ گرام سونا چھ سو (۶۰۰) گرام چاندی بھی نکلی ہے) مترجم (۲) ساٹھ صاع کو کہتے ہیں۔

(۳) دو نصالوں کے درمیان جو اعداد ہیں اس پر زکاۃ نہیں ہے اور یہ قاعدہ تمام جانوروں اونٹ، گائے، بکری کے سلسلہ میں ہے۔

سال کا بچہ ۳۷ سے ۴۵ تک اونٹ کا دو سال کا بچہ جسے بنت محاض و بنت لبون کہتے ہیں، ۴۶ سے ۶۰ تک اونٹ کا تین سال کا بچہ اور ۶۱ سے ۷۵ تک اونٹ کا چار سال کا بچہ، اور ۷۶ سے ۹۰ تک دو دو سال کے دو بچے، اور ۹۱ سے ۱۱۹ تک تین تین سال کے دو بچے، اور جب اونٹ کی تعداد ۱۲۰ ہو جائے تو ہر چالیس اونٹ میں دو سال کا اونٹ کا بچہ اور ہر پچاس اونٹ میں تین سال کا اونٹ کا بچہ زکاۃ میں دینا واجب ہے۔

گائے کی زکاۃ:

اور جس شخص کے پاس تیس گائے ہوں اس پر ایک سال کا گائے کا بچھڑا زکاۃ میں دینا واجب ہے، اور اس کے پاس چالیس گائے ہو جائیں تو اس کے ذمہ دو سال کا ایک بچھڑا واجب ہے، اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو ہر تیس پر ایک ایک سال کا بچھڑا اور ہر چالیس پر دو سال کا ایک بچھڑا زکاۃ میں دینا واجب ہے۔

بکری کی زکاۃ:

اور جس شخص کے پاس چالیس بکریاں ہوں تو اس پر ایک بکری زکاۃ میں دینا واجب ہے اور جب بکریوں کی تعداد ایک سو اکیس (۱۲۱) ہو جائے تو اس پر دو بکری دینا واجب ہے اور جب بکریوں کی تعداد دو سو ایک (۲۰۱) ہو جائے تو اس کے ذمہ تین بکریاں زکاۃ میں دینا واجب ہے، اور اس طرح ہر سو (۱۰۰) بکری پر ایک بکری زکاۃ میں دینا ہوگی۔

زیورات کی زکاۃ:

"حلی" ان زیورات کو کہتے ہیں جسے عورت بطور زینت استعمال کرتی ہے خواہ وہ سونے کے بنے ہوں یا چاندی کے، اس طرح کے زیورات کے مسئلہ میں علماء سلف و خلف میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا اس میں زکاۃ واجب ہے کہ نہیں، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس طرح کے زیورات میں زکاۃ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کی حیثیت گھریلو ساز و سامان جیسی ہے، جس میں بالاتفاق زکاۃ واجب نہیں ہوتی، جمہور علماء کے علاوہ کچھ دوسرے علماء زیورات میں زکاۃ کے وجوب کے قائل ہیں اگر اسے جمع پونجی کے طور پر نہ رکھا گیا ہو۔ (۱) لیکن اختلافات سے بچتے ہوئے احتیاط اسی میں ہے کہ زیورات کی ہر سال قیمت کا اندازہ لگا کر اس کی زکاۃ نکالی جائے اور اسی میں زیادہ بہتری و پاکیزگی ہے۔

وجوب زکاۃ کی شرائط:

خواتین پر زکاۃ واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، جو یہ ہیں:

(۱) مال کا نصاب کو پہنچنا، (جس کی تفصیل گزر چکی ہے)

(۲) حوالان حول ہونا، یعنی سونے و چاندی یا جانوروں پر پورا سال گزرنا۔

(۱) زیورات کو اگر اسے محض جمع پونجی کے لئے خریدا گیا ہو تاکہ بوقت ضرورت کام آئے تو اس میں کبھی علماء کے یہاں زکاۃ واجب ہے اور وہ خزانہ کے حکم میں آتا ہے (دلائل کے اعتبار سے زیورات میں زکاۃ کے قائل علماء کا مسلک زیادہ راجح و قوی ہے) مترجم سعید احمد

(۳) پھلوں کا پک جانا، اور اناج کے دانوں کا چھلکوں سے الگ ہو جانا۔

زکاۃ کے مصارف :

خاتون اسلام زکاۃ کی ادائیگی کے کچھ مصارف ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد گرامی میں ذکر فرمایا ہے :

”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ (التوبہ : ۶۰)

ترجمہ : صدقات (واجبہ) تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہیں، جو ان پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کی دلجوئی منظور ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قرضداروں میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی امداد) میں یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔

(۱) فقیر، اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضروریات کے لئے ناکافی ہو۔

(۲) مسکین، اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔

(۳) عامل، وہ ملازم جو وصولی زکاۃ کے ادارے میں کام کرتا ہو۔

(۴) تالیف قلب والے، نو مسلم لوگ، تاکہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔

(۵) گردن چھڑانے، وہ غلام جو اپنے کو آزاد کرانے کے لئے رقم جمع کرتا ہو۔

- (۶) قرضدار، جس کے اوپر جائز قرض ہو اور ادائیگی کے لئے رقم جمع کرتا ہو۔
 (۷) سبیل اللہ، وہ غازی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلا ہو۔
 (۸) ابن سبیل، وہ مسافر جو سفر میں بے سہارا ہو گیا ہو اگرچہ اپنے وطن میں مالدار ہو۔

صدقات : (۱)

خاتون اسلام آپ کے مال و دولت میں زکاۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) اصطلاح شریعت میں اسے صدقہ تطوع کہتے ہیں، اس کی فضیلت و ترغیب میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں :

(الف) صدقہ کرو عنقریب ایک شخص اپنا مال صدقہ لیکر ایک شخص کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا اگر کل آتے تو میں لے لیتا آج مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، پھر کسی کو نہیں پائے گا جو اس کو قبول کرے۔ (بخاری)

(ب) آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے، اگر اسے بھی نہ پاؤ تو کلمہ حسنه کہہ کر بخاری و مسلم،

(ج) جب کوئی کسب حلال سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے واسنے ہاتھ سے لیتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے جیسا تم میں سے کوئی اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے تا آنکہ وہ پہاڑ یا اس سے بڑا ہو جاتا ہے۔ (بخاری)

(د) مسلمان عورتوں! کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا ایک کھردیدے۔ (بخاری و مسلم)
 (یعنی اتنی معمولی چیز بھی صدقہ کرنے میں عار نہ محسوس کرے)

(۱) صلہ و رحمی : اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھوکا یا تنگ ہو اور اللہ نے آپ کو فراوانی سے مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ پر اس کے لئے صدقہ کرنا واجب ہے۔

(۲) مہمان نوازی : اگر آپ کے گھر میں کوئی مسلمان خاتون آئے چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، تو آپ پر اس کی خاطر و ضیافت کرنا واجب ہے چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے کریں۔

(۳) خدمت غازی : اگر کہیں جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہو اور آپ کے پاس مال ہو تو اس میں سے کچھ ضرور صدقہ کیجئے کیونکہ یہ اللہ کے دین کی نصرت و مدد ہے۔ ویسے رفاہی و خیراتی کاموں کے بے شمار طریقے ہیں ان تمام میں آپ حصہ لیجئے اور صدقات و خیرات سے اپنے کو محروم نہ رکھئے کیونکہ حدیث میں آیا ہے، اپنے کو آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر کے، کیونکہ جب آپ کوئی صدقہ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کی طلبگار ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر آپ کے گناہوں کو معاف اور آپ کے درجات کو بلند اور آپ کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔

روزہ

خاتون اسلام، اسلام کا چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ روزہ تقرب الہی اور حصول اجر و ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔

ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں " آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب (اسے ایک خاصی اندازے سے) ملتا ہے سوائے روزے کے اس لئے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا " (۱)

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

"روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے"

(۲)

ایک حدیث میں ارشاد ہے : جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے ستر سال دور رکھتے ہیں " (۳)

(۱) بخاری ۸/۲۱۱ و مسلم : ۱۵۷/۲

(۲) یہ فقرہ پہلی حدیث کا جزء ہے "خلو معدہ کی وجہ سے جو بو نکلی وہ مراد ہے

(۳) بخاری ۲/۲۲ و مسلم ۱۵۹/۳

روزے کی قسمیں :

روزے کی دو قسمیں ہیں ، فرض ، نفل .

فرض : رمضان مبارک کے روزے ہیں اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کی فرضیت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے ہوئی ہے :

" يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات " (البقرہ : ۱۸۳ - ۱۸۴)

ترجمہ : اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوتے ہیں ، عجیب نہیں کہ تم مستقی بن جاؤ ، چند گئے چنے دن .

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا ، نماز قائم کرنا ، زکاۃ ادا کرنا ، رمضان کے روزے رکھنا ، اور حج بیت اللہ کرنا ، (۱)

نفل روزے کثرت سے مشروع ہیں ، ان میں بعض متعین دنوں میں رکھے جاتے ہیں اور بعض دوسرے بغیر تعین و تحدید کے رکھے جاتے ہیں .

(۱) بخاری ۱/۱۰ و مسلم ۱/۳۲

متعین روزے یہ ہیں .

- (۱) عاشوراء کے دو دن کے روزے . (۱)
- (۲) غیر حاجی کے لئے یوم عرفات کا روزہ (۲)
- (۳) ایام بیض کے روزے یعنی ہر ماہ کی ۱۳، ۱۴، ۱۵، تاریخ کے روزے (۳)
- (۴) دو شنبہ اور جمعرات کے روزے (۴)
- (۵) شوال کے چھ دن کے روزے (۵)

غیر متعین روزے یہ ہیں :

سال کے کسی مہینے اور کسی دن بغیر تعین و تحدید کے روزے رکھے جائیں . اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ ایک دن چھوڑ کر رکھنا ہے . چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے (۶)

-
- (۱) مسلم کی حدیث ۱۵۱/۲ میں ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال گناہ کے لئے کفارہ ہوتا ہے .
 - (۲) حدیث میں ہے : کہ یہ گزشتہ اور آئندہ دو سال کے گناہوں (مضیرہ) کے لئے کفارہ ہوتا ہے .
 - (۳) حدیث میں ہے کہ اس سے پوری زندگی روزے کا ثواب ملتا ہے کیونکہ الحمتہ بعشر امثالہا کا قاعدہ ہے مسلم ۱۶۷/۳
 - (۴) اس کے فضائل میں ترمذی وغیرہ میں حدیثیں آتی ہیں .
 - (۵) بخاری ۶۰/۲ - ۱۶ مسلم : ۱۶۵/۳
 - (۶) ہمیشہ روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے مسلم : ۱۶۹/۳ .

ممنوع و مکروہ روزے

خاتون اسلام، بعض دنوں میں روزہ رکھنا حرام اور بعض دنوں میں مکروہ ہے۔

ممنوع ایام یہ ہیں :

- (۱) حیض و نفاس والی عورت کا روزہ رکھنا۔
- (۲) عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا۔
- (۳) ایام تشریق میں روزہ رکھنا۔ (۱)
- (۴) ایسے مریض کا روزہ رکھنا جس کے ہلاک ہونے کا خوف ہو۔

مکروہ ایام یہ ہیں : (۲)

- (۱) بلاناغہ ہمیشہ روزہ رکھنا، یعنی کسی دن بغیر روزے سے نہ رہنا۔

(۱) جن ایام میں حاجی منیٰ میں ہوتا ہے۔

(۲) ممنوع و مکروہ روزے کے دنوں کا ثبوت صحیح احادیث سے ہے، ہم نے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان احادیث کا ذکر نہیں کیا ہے، اور اس مسئلہ میں اختلاف نہیں پایا جاتا مزید معلومات حاصل کرنی ہوں تو اسے جامع الاصول ۶/۲۳۳-۲۵۹ دیکھ لینا چاہئے۔

(۲) یوم الشک کو روزہ رکھنا۔ (۳)

(۳) دودن بغیر افطار کے روزہ رکھنا۔

(۴) عورت کا بغیر شوہر کی اجازت کے (نظلی) روزہ رکھنا، جب وہ موجود ہو، ان روزوں میں شدید کراہت پائی جاتی ہے، اس کے بعد جن روزوں میں معمولی سی کراہت پائی جاتی ہے وہ یہ ہیں :

(۱) تنہا صرف جمعہ یا سنپچر کو روزے رکھنا۔

(۲) شعبان کے آخری ایام میں روزے رکھنا۔

(۳) حاجی کا میدان عرفات میں روزہ رکھنا۔

روزے کے ارکان :

خاتون اسلام، روزے کے وہ ارکان جن پر اس کی بنیاد ہے اور جس کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے وہ یہ ہیں :

(۱) فجر سے پہلے نیت کرنا (۲)

(۱) شعبان کی تیس (۳۰) تاریخ کو روزہ رکھنا جب روت ہلال مہبت نہ ہو سکے۔

(۲) حدیث میں ہے، 'إنما الأعمال بالنیات، اعمال کا دارودار نیت پر ہے، بخاری ۴/۱ حدیث میں ہے جس نے رات سے (روزے کی) نیت نہیں کی وہ روزہ نہ رکھے، نسائی ۱۶۷/۴ وغیرہ

(۲) کھانے اور پینے (اگرچہ یہ تھوڑا سا ہو) اور جماع سے رک جانا (۱)
 (۳) کھانے و پینے اور جماع سے رکنا، دن میں ہو یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، چنانچہ روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا، اسی طرح روزہ بغیر مفطرات سے رکے نہیں ہوتا، اور روزہ دن کے علاوہ نہیں ہوتا۔

روزے کی سنتیں:

خاتون اسلام، روزے کی کچھ سنتیں ہیں جن کی رعایت سے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جو یہ ہیں:

(۱) غروب آفتاب کے بعد افطار کرنے میں جلدی کرنا (۲)

(۲) سحری کرنا اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو۔

(۳) سحری میں رات کے آخری حصہ تک تاخیر کرنا۔

(۴) تازہ کھجور اگر نہ ہو تو عام کھجور، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو تین چلو پانی سے افطار کا آغاز کرے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من

الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل" (البقرہ ۱۸۷)

ترجمہ: اور کھاؤ و پیو جب تک کہ تم پر صبح کا سفید خط، سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے پھر روزہ کو رات (ہونے) تک پورا کرو۔ حدیث میں ہے لوگ اس وقت تک بھلائی پر ہوں گے جب تک افطاری میں جلدی اور

سحری میں تاخیر کرتے ہوں گے (بخاری: ۲۷/۳ مسلم: ۱۳۱/۳)

روزے کے مستحبات :

خاتون اسلام : رمضان کے روزے کے ایام میں چند چیزیں مستحبات کا درجہ رکھتی ہیں جو یہ ہیں :

- (۱) قیام اللیل کرنا جس کی کم سے کم تعداد گیارہ رکعت ہے .
- (۲) دن و رات میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا .
- (۳) روپیہ و پیسہ اور کھانا اور کپڑا صدقہ و خیرات کرنا .
- (۴) افطار کے وقت دین و دنیا کی بھلائی کے لئے دعاء کرنا .

روزے کے مفسدات :

خاتون اسلام ، روزہ چند چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں :

- (۱) (قصداً) کھانا اور پینا .
- (۲) جماع کرنا .
- (۳) کسی سیال چیز کا معدہ تک پہنچ جانا ، خواہ منہ کے ذریعہ ہو یا ناک اور کان اور آنکھ کے ذریعہ سے ہو .

(۱) یہ تراویح کی سنت ہے جو بالاجماع ثابت ہے .
(۲) کیونکہ نیکوں کا ثواب رمضان میں کئی گناہ ہو جاتا ہے .
(۳) حدیث میں ہے ، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ کہتے " اللهم لک صمت وعلی رزقک أفطرت . (ابو داؤد ۱ / ۱۵۵)

(۴) قصداً قے کرنا۔

(۵) روزے کی نیت کا انکار کر دینا اگرچہ دن بھر کچھ کھایا یا پینا نہ ہو۔

(۶) مرتد ہو جانا، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک۔ (۱)

روزے کے مکروہات :

خاتون اسلام، چند چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں :

(۱) وضو کرتے وقت مبالغہ سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا۔ (۲)

(۲) سرمہ استعمال کرنا۔

(۳) چیونگم چوسنا۔

(۴) کسی سالن یا پکی ہوئی چیز کو چکھنا تاکہ اس کا مزہ یا نمک وغیرہ کا اندازہ لگایا جاسکے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے " ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله " وقوله " لئن أشرکت لیجعلن عملک . (الزمر : ۶۵) جو ایمان کا انکار کرے تو تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اور " اگر آپ شرک کریں تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

نیت کے انکار سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اعمال کا دار مدار نیت پر ہے اگر کسی نے روزہ نہ رکھنے کی نیت کی اور پختہ ارادہ بھی کر لیا تو وہ روزہ دار نہیں ہے اگرچہ کھانا پینا ترک کر دے۔

(۲) حدیث میں ہے " جب تم وضو کرو تو مبالغہ سے کلی اور ناک میں پانی ڈالو البتہ جب تم روزے سے ہو " (ابو داؤد ۱ / ۵۵۲)

(۵) پچھنا گلوانا یا فصد کھلوانا. (۱)

اس لئے آپ ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجئے اگرچہ ان کے ارتکاب سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

روزے کے مباحات :

خاتون اسلام، روزہ دار کے لئے کچھ چیزیں مباح و جائز ہیں جو یہ ہیں :

(۱) مسواک کرنا۔

(۲) ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنا، جب گرمی شدید ہو۔

(۳) ایسی حلال دوائیں استعمال کرنا جو معدہ تک نہ پہنچیں۔

(۴) خوشبو استعمال کرنا۔

(۱) سرمہ لگانا اور چوٹکم چوسنا، اور سالن چکھنا وغیرہ، یہ سب مکروہات میں سے ہیں کیونکہ حلق سے نیچے جانے کا خطرہ رہتا ہے، اسی طرح سے پچھنا گلوانا فصد کھلوانے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور روزہ توڑنے کی نوبت آجاتی ہے۔

جن چیزوں سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا:

(۱) گردوغبار منہ میں چلا جانا.

(۲) بغیر قصد کے منہ میں مکھی کا چلا جانا.

(۳) تھوک کا لگل جانا اگرچہ زیادہ مقدار میں ہو.

(۴) احتلام ہو جانا.

(۵) طلوع فجر کے بعد حالت جنابت میں رہنا.

روزہ توڑ دینے کا حکم:

جس شخص نے رمضان میں روزہ رکھ کر قصداً جماع (مباشرت) کر کے روزہ باطل کر دیا تو اس پر قضاء وکفارہ دونوں واجب ہے (۱) یعنی اس دن کی قضاء کے ساتھ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے.

(۱) کفارہ کو کفارہ اس لئے کہتے ہیں کہ رمضان کی حرمت کی بے حرمتی کر کے جو گناہ کیا ہے اس کا بدلہ ہو جائے. اس لئے جس نے رمضان کے علاوہ نفل روزے کو فاسد کر دے اس کے ذمہ صرف قضاء ہے. کیونکہ وہاں رمضان کے عظمت نہیں پائی جاتی جس میں قرآن نازل ہوا. مسئلہ: اگر شوہر نے بیوی کو جماع پر مجبور کر دیا تو عورت پر صرف قضاء ہے کفارہ نہیں، اور شوہر پر قضاء وکفارہ دونوں واجب ہے اور گناہ کا بھی وہی مستحق ہوگا.

اور اگر کسی نے اپنا روزہ جماع کے علاوہ قصدا کھاپی کر فاسد کر دیا تو امام مالک اور فقہاء مدینہ (نیز امام ابو حنیفہ) کے نزدیک قضاء وکفارہ دونوں واجب ہے لیکن ان کے علاوہ دوسرے علماء کے یہاں صرف قضاء واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے بھول کر ممنوعات صیام کا ارتکاب کر لیا تو اس پر کچھ واجب نہیں، اور وہ اپنا روزہ بدستور پورا کرے، اگر کوئی نفل روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح رمضان کے قضاء کا روزہ فاسد کر دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، البتہ اس دن کی قضاء اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔

اعتکاف رمضان :

خاتون اسلام ! رمضان مبارک میں اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے، کوئی شخص رمضان میں ایک رات اور ایک دن یا اس سے زیادہ عبادت کے لئے کسی مسجد میں بیٹھ جائے، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا تھا۔ (۱)

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کا اعتکاف کرنا بخاری و مسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔

لہذا عورتوں کو بھی اپنے گھر کی مسجد میں (نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ) اعتکاف کرنا چاہیے۔

اعتکاف کرنے والی خاتون عبادت کے علاوہ تمام چیزوں سے اجتناب کرے۔ اور صرف قضاء حاجت، اور وضوء اور بعض ضروری اشیاء کی خرید اور انتظام کے لئے باہر نکلے۔ اور اعتکاف جماع سے فاسد ہو جاتا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: **وَلاتبتاشروہن وأنتم عاکفون فی المساجد۔ تم لوگ حالت اعتکاف میں عورتوں سے جماع نہ کیا کرو۔ (البقرہ: ۱۸۷)**

صدقہ فطر:

خاتون اسلام ہر مسلمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت بڑا ہو یا چھوٹا آزاد ہو یا غلام صدقہ فطر واجب ہے۔ (۱) جس کی مقدار ایک صاع کھجور یا ایک صاع گیہوں یا چاول یا جو ہے۔

صاع چار مرتبہ ہتھیلیوں میں بھرنے کی مقدار کے برابر ہوتا ہے صدقہ فطر کو عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح عید سے ایک دو دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد عمومی طور پر نکال دیا گیا تو کافی ہوگا۔

صدقہ فطر فقراء و مساکین کے علاوہ کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے۔

(۱) اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو، غلام، آزاد، مرد و عورت چھوٹے، بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے۔ (بخاری ۱۵۳/۲)

حج اور عمرہ کا بیان

خاتون اسلام، حج و عمرہ قبولی اور فعلی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اور حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور عمرہ ایک مرتبہ واجب یا ست موکدہ ہے، اور حج اور عمرہ دونوں کے کچھ احکام و مسائل ہیں، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں:

الف - وجوب حج و عمرہ کے شرائط:
 استطاعت کا ہونا، یعنی بدنی اور مالی قدرت رکھنا۔ (آمد و رفت کے لئے زاد راہ اور سواری اور سفر حج کی مدت تک اہل و عیال کے اخراجات کا انتظام ہو) راستہ کا پر امن ہونا، عورت کے لئے محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً“ (آل عمران: ۹۷)
 ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کا حج کریں ” (۱)

(۱) مذکورہ آیت کریمہ حج کے فرضیت کی دلیل ہے۔ اور عمرہ کے وجوب کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”واتموا الحج والعمره لله“ اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لئے“ (البقرہ: ۱۹۶)۔

ب۔ حج و عمرہ کے ارکان :

حج کے ارکان چار ہیں :

احرام ، وقوف عرفہ ، طواف زیارت اور اس کے بعد سعی ۔

عمرہ کے ارکان تین ہیں :

احرام ، طواف اور سعی ، اور اس میں صرف ایک واجب ہے ، جو یہ ہے کہ سعی کے بعد حلق یا قصر کرانا ۔

ج۔ حج کے واجبات :

حج کے واجبات حسب ذیل ہیں ۔

(۱) دسویں ذی الحجہ کی شب میں مزدلفہ میں وقوف کرنا ۔ (۱)

(۲) دسویں تاریخ کو جمرہء عقبی کی رمی کرنا ۔

(۳) حلق یا قصر کرنا ۔

(۱) اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے " فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ . (البقرہ ۱۹۸) ترجمہ : جب عرفات سے تم روانہ ہو جاؤ تو مشعر حرام کے قریب اللہ کا ذکر کرو ، مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے ۔

(۴) اور ایام تشریق کے تینوں دن ورات منی میں گزارنا جو جلدی نہ کرے اور جو جلدی روانہ ہو تو اسے دو دن ورات کافی ہے۔ (۱)

(۵) منی کے قیام کے دوران تینوں حمرات کی رمی کرنا جو زوال کے بعد ہوگی۔
(۶) طواف وداع کرنا۔ (۲)

اسی طرح ارکان حج میں بھی کچھ واجبات ہیں، چنانچہ وقوف عرفہ میں واجب یہ ہے کہ وہ زوال کے بعد کیا جائے اور وہ رات تک جاری رہے۔

اور طواف کے واجبات (۳) یہ ہیں کہ عورت پاک و صاف ہو، ستر عورت کی ہوئی ہو، اور حجر اسود سے طواف شروع کرے۔ طواف کے ساتوں چکر پے در پے ہوں۔

(۱) اس کی دلیل یہ ارشاد باری ہے "واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ (البقرہ: ۲۰۳)

ترجمہ: ان چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، جو شخص منی میں دو دن قیام کرے والہی کی جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ اس شخص پر کوئی گناہ ہے جو تاخیر کر کے جائے۔

(۲) اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے، لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کا آخری تعلق بیت اللہ سے ہو لیکن آپ نے حائضہ عورت کے لئے اس کی تخفیف فرمائی۔ (بخاری ۱۲ / ۹۰۲ و مسلم ۹۳ / ۲)

(۳) طواف اور سعی اور احرام کے واجبات عام طور پر حج اور عمرہ دونوں میں ایک ہی ہیں۔

سعی کے واجبات یہ ہیں ، سعی طواف کے بعد ہو ، سعی کے ساتوں چکر پے در پے ہوں . سعی صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے .

احرام کے واجبات یہ ہیں : احرام میقات سے باندھے ، محرم سلعے ہوئے کپڑے اتار دے ، احرام باندھتے وقت حج کی تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی نیت کرتے وقت یہ کلمات کہے " لبيك اللهم لبيك حجاً أو عمرةً يا حجاً و عمرةً "

ممنوعات احرام :

جب کوئی شخص احرام باندھ لے تو اسے مندرجہ چیزیں کرنا ممنوع ہو جاتا ہے .

(۱) سلا ہوا کپڑا پہننا ، سر ڈھکنا .

(۲) خوشبو لگانا .

(۳) شکار کرنا .

(۴) جماع اور متعلقات کا ارتکاب کرنا .

(۵) ناخن تراشنا .

(۶) سر منڈانا ، بال کترانا ، (کسی جگہ کا بھی ہو) (۱)

(۱) ہم نے حج کے ارکان اور اس کے واجبات اور محظورات کا جو کچھ تذکرہ کیا ہے وہ کتاب وسنت سے ثابت ہے ، لیکن کتاب وسنت سے اس کے دلائل اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کئے ہیں ، جو تفصیلی دلائل دیکھنا چاہتا ہے وہ جامع الاصول ۳ / ۳۷۳ کا مطالعہ کرے .

فضائل حج و عمرہ:

خاتون اسلام حج و عمرہ افضل اعمال اور تقرب الہی کا عظیم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل احادیث سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ (۱)
- ۲۔ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور اس میں جماع اور فسق و فجور سے بچے تو وہ گناہ سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا (۲)

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حج اور عمرہ بار بار کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ (۳)

۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ (یعنی اجر و ثواب میں) (۴)

(۱) بخاری ۲/۳ مسلم ۱۰۷/۲

(۲) بخاری ۲۵/۱ مسلم ۱۰۷/۲

(۳) احمد ۱۶۵/۶، ترمذی ۱۶۶/۳ وغیرہ۔

(۴) بخاری ۳۳/۳ مسلم ۶۱/۲

(۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : عورتوں کے لئے ایسا جہاد ہے جس میں قتل و قتال نہیں ہے وہ حج و عمرہ ہے۔ (۱)

اخیر میں میں تمام عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ فریضہ حج اور واجب عمرہ کی ادائیگی ہی پر اکتفا کریں اور پھر اپنے گھر میں ہی مقیم رہیں (اور بار بار حج و عمرہ کی کوشش نہ کریں) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے جنھوں نے آپ کے ساتھ حج و دواع میں حج کر لیا تھا، یہ فرمایا کہ ” یہ تم لوگوں کا حج ہو گیا، اور بس اسی پر اکتفا کرو۔ (۲)

(۱) احمد ۱۶۵/۶ ابن ماجہ ۹۶۸ اصلہ فی البخاری ۱۵۶/۲ .

(۲) صحیح یہ ہے کہ یہ مقولہ حضرت ابن عمر پر موقوف ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ضعیف ہے ”

حج و عمرہ کرنے کا طریقہ

خاتون اسلام حج مقبول اسے کہتے ہیں جس میں حاجی نے تمام ارکان حج اور اس کے واجبات اور سنتوں اور آداب کی ادائیگی بحسن و خوبی کی ہو۔

حج کرنے کا طریقہ :

سب سے پہلے آپ غسل کیجئے (۱) اور اپنے ناخن تراشنے اور پاک و صاف کپڑے پہن لیجئے اور جب میقات پہنچ جائیں تو نماز فرض یا نفل کے بعد "لبیک اللہم لبیک" کہہ کر حج یا عمرہ، یا حج و عمرہ دونوں کی نیت کر لیجئے، کیونکہ تینوں طرح کی نیت کرنا جائز ہے اور پھر "لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک" کا تلبیہ بار بار

(۱) احرام سے قبل غسل کرنا اور نماز پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح تلبیہ کثرت سے کہنا اور حجر کا بوسہ دینا، یا ہاتھ سے اس کو چھونا اور اشارہ کرنا سنت ہے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو گنا ادا کرنا اور زم زم بھی پینا سنت ہے۔ سنت واجب کے علاوہ ہے، اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی دم دینے سے ہوتی ہے، لیکن سنت چھوٹ جانے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کچھ اور سنتیں ہیں، جیسے نویں ذی الحجہ کی رات منیٰ میں گزارنا، جہاں تک داہنا مونڈھا کھلا رکھنے اور طواف میں رمل کرنے اور سعی میں تیز چلنے کی بات ہے تو سب چیزیں عورتوں کے علاوہ مردوں کے لئے مخصوص سنتیں ہیں۔

دہراتے رہئے تا آنکہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، اور حجر اسود کے پاس ہاتھ سے اشارہ کر کے "بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ" مکر طواف شروع کیجئے، حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے۔ اور ازدحام کے وقت (عورتوں کو) چھوڑ دینا افضل ہے، اور آپ سات چکر طواف چلتے ہوئے مکمل کیجئے۔ جس میں ذکر اللہ اور جو مناسب دعائیں یاد ہوں پڑھتے رہیے اور اللہ سے مانگتے رہیے، اور جب طواف سے فارغ ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے پچھے مردوں سے علاحدہ ہو کر دو رکعت نماز ادا کیجئے اس کی پہلی رکعت میں "قل یا ایہما الکفرن" اور دوسری رکعت میں "قل هو اللہ احد" سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیے۔ پھر زم زم کا پانی پیجئے اور اللہ تعالیٰ سے جو جی چاہے دعا کیجئے پھر صفا و مروہ کی طرف جائیے، صفا کے اوپر چڑھ کر تکبیر و تہلیل کیجئے اور وہاں سے اتر کر مروہ کی طرف چلئے وہاں پر بھی قدرے چڑھ کر تکبیر و تہلیل کہئے اور پھر وہاں سے اتر کر صفا کا رخ کیجئے، اس طرح سے صفا و مروہ کی سات مرتبہ سعی کیجئے، سعی سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ صرف عمرہ کا احرام باندھی ہوئیں ہیں تو انگلی کے ایک پور کے بقدر اپنے گھر جا کر یا لوگوں سے دور ہو کر کٹوا لیجئے اس طرح آپ کا عمرہ پورا ہو گیا اور آپ حلال ہو گئی ہیں۔

اگر آپ حج افراد یا حج قرآن کی نیت کی ہوئی ہیں تو احرام باندھے رہئے اور آٹھویں ذی الحجہ کو "لبیک اللہم لبیک" کہتے ہوئے منیٰ کے لئے روانہ ہو جائیے تاکہ وہاں نویں ذی الحجہ کی شب گزارئے۔ اور نویں ذی الحجہ کو جب

سورج طلوع ہو جائے تو عرفات کے لئے روانہ ہو جائیے اور عرفات پہنچ کر ظہر و عصر کی نماز جمع و قصر کر کے ادا کیجئے اور میدان عرفات میں غروب آفتاب تک وقوف کیجئے اور خوب تضرع اور خوف و خشیت سے ذکر و دعا میں مشغول رہئے۔ اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لئے روانہ ہو جائیے اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نماز جمع و قصر کر کے پڑھئے، البتہ مغرب کی نماز پوری پڑھی جائے۔ اور مزدلفہ میں رات گزارئے اور پھر فجر کی نماز کے بعد منیٰ کے لئے روانہ ہو جائیے اور جمرہ عقبہ ء کو سات کنکریوں سے رمی کیجئے اور کنکری مارتے وقت "اللہ اکبر" کہئے اور پھر انگلی کے پور کے برابر اپنے بال کٹوائے پھر مکہ جاکر طواف افاضہ کیجئے۔ جو ارکان حج میں ہے، پھر منیٰ لوٹ آئیے اور وہاں دو دن یا تین دن گزارئے اور ان دونوں دن میں تینوں جمرات کو زوال کے بعد غروب آفتاب کے تک کنکریاں ماریے، اگر ازدحام کی وجہ سے رات میں کنکریاں مارنا پڑ جائے تو ایسا کرنا جائز ہے اور کوئی حرج نہیں، رمی ہر جمرہ کو سات کنکریاں مارنے سے ہوتی ہے۔ چھوٹے جمرہ (جو مکہ سے دور ہے) سے شروع کیجئے پھر درمیانے اور پھر بڑے جمرے کو یکے بعد دیگرے رمی کیجئے۔ اور جب منیٰ کے دو یا تین دن مکمل کر لیجئے، اور اپنے وطن واپسی کا ارادہ ہو جائے تو بیت اللہ کا طواف و دعاء کیجئے، جبکہ حیض و نفاس والی عورت پر طواف و دعاء واجب نہیں ہے۔

اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے۔ (۱)

عمرہ کرنے کا طریقہ :

عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کیجئے اور میقات سے احرام بندھئے ، اور بیت اللہ پہنچ کر سات چکر طواف کیجئے . اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کیجئے . اور پھر صفا و مرہ جا کر سات چکر لگائیے ، اور سعی مکمل کرنے کے بعد الگی کے پور کے برابر اپنے بال کٹوائے ، اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا . اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے .

یہاں اسلام کے پانچوں رکن ، شاد تین ، نماز ، زکاۃ ، روزہ ، اور حج کی تفصیلات پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہیں .

اس کے علاوہ کچھ اور بھی واجبات اور آداب ، اور اخلاقیات کی تعلیمات ہیں ، جسے ہر مسلمان خاتون کا جاننا ضروری ہے ، جسے آئندہ صفحات میں ہم تحریر کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی معلومات حاصل کر کے اس پر عمل کیجئے تاکہ سعادت دارین سے مشرف ہوں . (ان شاء اللہ تعالیٰ)

(۱) یہ حج و عمرہ کی ادائیگی کی تفصیلات تھیں . اس لیے آپ اسے بار بار پڑھئے اور غور و فکر کیجئے اگر آپ کو حج و عمرہ نصیب ہو تو اس کے مطابق عمل کیجئے تاکہ آپ کا حج و عمرہ مقبول ہو ، اور حج و عمرہ کے دوران اس کتاب کے مولف (دستمرم) کو اپنی پر خلوص و نیک دعاؤں میں نہ بھولئے .

خاتون اسلام کے واجبات

خاتون اسلام آپ کے اوپر بہت سی چیزیں واجب ہیں، جو آپ کی زندگی کی بنیاد اور آپ کے کمال کا سرچشمہ ہیں، اور اس پر آپ کی سعادت و نیک بختی منحصر ہے۔ اس لئے آپ پورے احلاص اور سچائی سے اس پر عمل کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جائیں۔ ان واجبات کی بنیاد تقدمات ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) محافظت نماز:

پانچوں وقت کی نمازوں کو ان کے اوقات میں ادائیگی کا اہتمام کیجئے، اور قیام و قعود، اور رکوع و سجود میں پورے خشوع و خضوع کا مظاہرہ کیجئے، اور حالت قیام میں جائے سجدہ پر نگاہ رکھئے۔ اور نماز کے بعد اذکار اور دعاؤں کو پڑھئے جو یہ ہیں:

تین مرتبہ "استغفر اللہ" کہئے پھر ان دعاؤں کو پڑھئے "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . اللهم اعني على ذكرك، وشكرك وحسن عبادتك . لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل وهو على كل شيء قدير"

پھر ان اذکار و دعاؤں کے بعد ۲۳ مرتبہ " سبحان اللہ " اور ۲۳ مرتبہ " الحمد للہ " اور ۲۳ مرتبہ " اللہ اکبر " اور آخر میں " لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير " ایک مرتبہ کہئے۔
 اور ان سنتوں کو اہتمام سے پڑھئے "ظہر سے قبل دو رکعت، اور اس کے بعد دو رکعت، عصر سے قبل دو رکعت، مغرب کے بعد دو رکعت، اور عشاء کے بعد دو رکعت، اور فجر سے قبل دو رکعت اور ترکی تین رکعت جو کہ عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔

(۲) اطاعت شوہر: (۱)

شوہر اور والدین یا ان میں سے جو بھی باحیات ہو ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے۔ ان کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل کیجئے اور ان سے خوش کلامی اور حسن اخلاق سے پیش آئیے اور ان کے سامنے اپنی آواز پست رکھئے ان کی مخالفت سے اجتناب کیجئے، کوتاہی ہو جانے پر ان سے معذرت اور معافی طلب کیجئے اور ان سے خندہ پیشانی سے پیش آئیے۔

(۱) بیوی کا شوہر کی اطاعت باتفاق علماء صرف نیکی و بھلائی کے کاموں میں واجب ہے

(۳) تربیت اولاد:

اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ان کی تعلیم و تربیت آپ کے ذمہ واجب ہے، لہذا آپ ان کو حسن اخلاق، اور قوی اور عملی تمام خوبیوں کی تعلیم دیجئے، جیسے وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا، بری باتوں سے اجتناب کرنا، صفائی و ستھرائی کا خیال رکھنا، صحت و عافیت کا اہتمام کرنا۔

(۴) امور خانہ داری:

گھریلو امور سے متعلق تمام چیزوں کا خیال رکھنا اور ان ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی پورا کرنا جو آپ کے واجبات حیات میں سے ہیں۔ مثال کے طور پر، اپنے گھر کو صاف و ستھرا رکھنا، گھریلو اشیاء کو سلیقہ سے مرتب کرنا، کھانے و پینے کا انتظام کرنا، اوڑھنے و بچھانے کی چیزوں کو تیار کرنا، جس میں کپڑا سلنا، ودھلنا، اور گھر کی تمام چیزوں کو حفاظت سے رکھنا اور صفائی و ستھرائی اور شور و غل جس سے گھر کا سکون و اطمینان رخصت ہو جاتا ہے اور غمی و پریشانی کی علامت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے گھر کو محفوظ رکھنا ہے۔

(۵) اطاعت والدین:

والدین اور تمام عزیز واقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کے اہم واجبات میں سے ہے۔ کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ تعالیٰ نے

قرآن کریم میں اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بے شمار جگہ تاکید فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد گرامی ہے:

” وبالوالدین إحسانا“ (البقرۃ: ۸۳) اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔

” ان اشکر لی ولوالدیک “ (لقمان: ۱۴) میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ ” واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والأرحام (النساء: ۱) اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے یہ فرمایا ہے ” اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا “ (۱)

ایک حدیث میں فرمایا: جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ (۲) والدین کیساتھ نیکی ان کی نیکی میں اطاعت، اور ان سے برائی اور تکلیف دہ چیزوں کو دفع کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عزیز واقارب کیساتھ صلہ رحمی، ان کی مزاج پر سی اور زیارت، اور ان کی مدد اور انکی خوشیوں، غموں میں شرکت اور ان کی قوی و فعلی تمام ایذا رسانی سے اجتناب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

(۱) بخاری: ۳/۸ و مسلم: ۶۳/۱

(۲) بخاری: ۶/۸ و مسلم: ۸/۸

(۶) حفاظتِ عزت و عصمت :

اپنی عزت و عصمت کی حفاظت آپ کے فرائضِ زندگی میں سے ہے، وہ اس طور پر کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی اور آواز کو پست رکھئے اور بغیر ضرورت اپنے گھروں سے نہ باہر نکلئے، اور دروازہ پر کھڑی ہونے اور کھڑکی سے جھانکنے اور تاکنے سے اجتناب کیجئے، اور غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کا اہتمام کیجئے، ان سے صرف سلام پر اکتفاء کیجئے اور نہ ان سے مصافحہ کیجئے اور نہ ہی ان سے خلوت اختیار کیجئے کیونکہ وہ ایسے رشتہ دار ہیں جو غیر محرم ہیں، اسی طرح آپ کے یہاں آیا ہوا مہمان آپ کی آواز نہ سنے، کیونکہ ایسی عورتیں دیوث صفت ہیں جن کی آوازیں باہر مہمان سنا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عورت کی کون سی صفت بہتر ہے۔ انھوں نے عرض کیا: جنھیں مرد نہ دیکھیں اور جو خود مردوں کو نہ دیکھیں۔

(۷) پڑوسی کیساتھ حسن سلوک :

پڑوسی کیساتھ احسان و حسن سلوک اور ان کی مزاج پر سی اور ان کی ایذا رسانی سے اجتناب اور ان کی مدد و نصرت ان کے پاس ہدیہ و تحائف بھیجنا خاتونِ اسلام کی اہم صفات میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ اس کی خدمت میں کم گوشت والی ہڈی ہدیہ میں بھیج دے " (۱)

اللہ تعالیٰ نے بھی پڑوسی کیساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، ارشاد ہے:

"والجار ذی القربی والجار الجنب" (النساء: ۳۶)

اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہم سایہ سے حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت جبریل مجھے پڑوسی کیساتھ حسن سلوک کی برابر وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے " (۲)

خاتون اسلام یہ بعض دینی و معاشرتی آپ کے واجبات تھے، اس لئے اس کی ادائیگی اور سبکدوشی کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے اور اس کے لئے کمر بستہ ہو جائے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اعمال صالحہ کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔

(۱) بخاری ۱۹۰/۲ و مسلم ۹۳/۲

(۲) بخاری ۱۲/۸ و مسلم ۲۷/۸

خاتون اسلام کے آداب

خاتون اسلام آپ جیسی خواتین کے لئے کچھ شرعی آداب و طور طریقے ہیں جس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا اور زندگی گزارنا ہے یہ آداب و اصول بہت ہیں جن میں سے بعض کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی معلومات رکھیں اور اپنی زندگی کو ان سے آراستہ کیجئے۔

(۱) ذکر اللہ :

جب کسی کام کو شروع کیجئے تو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیجئے کیونکہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم جن کا ہر عمل ہمارے لئے نمونہ اور اسوہ ہے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ (۱)

چنانچہ آپ بھی کھانا کھاتے پانی پیتے، لباس پہنتے، کھانا پکاتے، وضو اور غسل کرتے، اور حمام میں داخل اور خارج ہوتے وقت (۲) "بسم اللہ" پڑھتے۔

(۱) مسلم ۱۹۳/۱

(۲) حمام سے نکلنے وقت یہ دعاء پڑھنا مستحب ہے "الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى ."

(۲) طہارت و نظافت :

آپ اپنے کپڑے، جسم اور گھر کی نظافت و صفائی کا اہتمام کیجئے کیونکہ نظافت ایمان کا حصہ ہے، حدیث میں ہے " الطمور شطر الایمان " (۱) طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے۔

گندگی، خاتون اسلام کے مزاج و طبیعت طیبہ کے منافی ہے اسی طرح اپنے بچوں کی ہر لحاظ سے صفائی و ستھرائی کا خیال رکھئے کیونکہ آپ ہی ان کی تہذیب و تربیت کی ذمہ دار ہیں اور ان کی نیکی و بھلائی، آپ کی ذیوی و اخروی سعادت و کرامت کا ذریعہ ہے۔

(۳) پردہ پوشی :

آپ اپنے کپڑوں کو اتنا لمبا کیجئے جس سے آپ کے دونوں قدم چھپ جائیں اور اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھئے تاکہ آپ کے سر کے بال ڈھک جائیں، اس طرح کا لباس اپنے گھر میں اپنے محرموں والد، بھائی، لڑکے کی موجودگی میں اختیار کیجئے، اور گھر سے باہر آپ کے چہرے، ہتھیلی، اور قدم میں سے کچھ بھی ظاہر نہ ہو جسے کوئی اجنبی دیکھ سکے، اور نہ باہر خوشبو لگا کر نکلئے اور نہ ہی باہر زیب و زینت کے لباس کا مظاہرہ کیجئے۔

(۱) مسلم : ۱۳۰/۱

حدیث میں ہے " جو عورت خوشبو لگالے تو اسے ہمارے ساتھ عشاء کی

نماز میں نہ حاضر ہونا چاہئے۔ (۱)

(۴) کثرت خروج سے اجتناب :

آپ گھر سے بہت زیادہ باہر نہ نکلے، کیونکہ ہر وقت اندر و باہر آنے و جانے والی عورتیں معاشرہ میں اچھی نہیں سمجھی جاتیں۔ کیونکہ اس سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے اگر حیا رخصت ہو گئی تو ایمان بھی جاتا رہا۔ عورت میں سب سے بڑی خوبی اس کا شرم و حیا سے متصف ہونا ہے، اگر وہ شرم و حیا سے محروم ہو گئی تو بھلائی و نیکی کی ہر چیز سے محروم ہو گئی اور اس عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں جس میں کوئی نیکی و بھلائی نہ ہو۔

(۵) نقاب کا استعمال :

اگر آپ کو کسی ضرورت سے نکلنا ضروری ہو جیسے رشتہ داروں کی زیارت، دعوت میں شرکت، مسجد میں حاضری، عید گاہ میں نماز استسقاء وغیرہ کے لئے جانا۔ تو آپ سراپا پردہ پوش ہو کر باہر نکلے۔ اور زیورات کی نمائش سے بچئے (اور خوشبو وغیرہ سے اجتناب کیجئے) کیونکہ یہ سب چیزیں پردے کے منافی ہیں۔ کیونکہ

(۱) مسلم: ۲۴/۲

ان چیزوں کے ارتکاب سے ان اصول اور آداب کو ترک کر دینا لازم آئے گا جو عورت کے فضل و کمال اور سعادت کا مصدر اور منبع ہے۔

(۶) بدگاہی سے اجتناب :

گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے اور چھتوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے اور تاکنے سے اجتناب کیجئے۔ کیونکہ یہ آداب کے منافی اور شرور و فتن اور آزمائش و پریشانیوں کا سبب اور موجب ہے۔ اس لئے آپ رضا الہی کے حصول کے لئے اپنے گھروں سے وابستہ رہئے اور اللہ کے دئے ہوئے پر قناعت اختیار کیجئے اور قضاء الہی کے سامنے سر تسلیم خم رہئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ازواج مطہرات جو کہ امات المؤمنین ہیں، کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے :

” وقرن فی بیوتن ولا تبرزن تبرج الجاہلیة الأولى واقمن الصلاة

وأتین الزکوة وأطعن اللہ ورسوله (الاحزاب : ۳۳)

ترجمہ : اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت قدیم کے مطابق اپنے کو دکھاتی مت پھرو اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکاۃ دیا کرو اور اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔

(۷) آداب عامہ کی رعایت :

آپ اپنی آواز کو پست و دھیمی رکھئے، حسن کلام، طیب خاطر کو اپنا شیوہ بنائیے۔ خیر و نیکی کی چیزوں میں دلچسپی رکھئے اور اس میں حسب استطاعت مدد و نصرت سے حصہ لیجئے، شر و رانیوں سے نفرت کیجئے، سڑک پر کنارے چلئے، لوگوں سے مزاحمت سے گریز کیجئے، راستے میں کھانے پینے اور باتیں کرنے سے اجتناب کیجئے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں آداب اور مروت اور شرف و کرامت کے معانی ہیں، ان کے ارتکاب سے آپ کی عزت و شرف و کرامت مجروح ہو سکتی ہے۔ آپ ان عورتوں سے دھوکہ میں نہ آئیے جو بے پردہ ہو کر سڑکوں میں کھاتی و پیتی اور باتیں کرتی، گھومتی پھرتی ہیں۔ ان عورتوں نے اسلامی تعلیمات اور اسوہ مومنات کو نظر انداز کر کے کافرات کی اندھی تقلید کر رکھی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔

خاتون اسلام کے اخلاق

خاتون اسلام ، اچھے اخلاق آپکی زندگی کی بنیاد اور اس پر آپکی سعادت کا دارومدار ہے . حسن اخلاق سے مشرف ہونا غیر معمولی خیر و برکت کی علامت ہے . اور اس سے محرومی ، انتہائی بد بختی اور خیر و برکت سے محرومی ہے . رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی و بھلائی کے متعلق سوال کرنے والے کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے : البر حسن الخلق (۱) نیکی حسن اخلاق کا نام ہے .

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کہ جنت میں لوگ اکثر کس چیز کی وجہ سے داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا ” تقوی اللہ وحسن الخلق (۲)

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا : تم میں سے سب سے پیارا اور نشست میں مجھ سے سب سے قریب قیامت میں وہ ہیں جو خوش خلق ہیں . (۳)

(۱) مسلم : ۷/۸

(۲) ترمذی ۳/۳۶۳

(۳) بخاری ۸/۳۳ ” ان من احبکم الی احسنکم خلقاً ” کی عبارت ہے . اور باقی روایت ترمذی ۳/۱۹۳ اور احمد ۲/۱۹۳-۱۹۴ میں ہے .

حدیث میں ہے " بندہ اپنے حسن اخلاق سے آخرت کے عظیم درجات اور شرف و منزلت حاصل کر لیتا ہے جبکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے۔ (۱) حسن اخلاق، محنت و ریاضت اور مواظبت و پابندی کر کے حاصل کئے جاسکتے ہیں، درج ذیل سطور میں اچھے اخلاق کے کچھ طریقے اور نمونے ہم پیش کرتے ہیں آپ ان سے متصف ہونے کی کوشش کیجئے اور حسن خلق، عظیم صفات سے ان شاء اللہ آراستہ ہونے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اور آپ کے شرف و منزلت کے لئے اتنا کافی ہے کہ آپ حسن خلق کی عظیم صفات کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔

(۱) صبر کرنا:

صبر حقیقی یہ ہے کہ آپ اپنے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت پر قائم و دائم رکھئے اور اسمیں کسی قسم کی آتناہت و سستی و کاہلی کا مظاہرہ نہ کیجئے، اسی طرح صبر یہ ہے کہ آپ تمام گناہوں اور بد اخلاقیوں سے دور رہئے جیسے جھوٹ، خیانت، دھوکہ، خست، تکبر، عجب، بخل، شکوہ و شکایت، تقدیر سے ناراضگی وغیرہ۔

(۱) طبرانی اور اس کی سند جید ہے۔

(۲) عفو و درگزر کرنا :

تمام بری باتوں اور غلط حرکتوں کو جو دیکھتی یا سنتی ہیں نظر انداز کیجئے اور عفو و درگزر سے کام لیجئے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی اور کلمہ طیبہ سے دیکھیئے، اور اپنے اہل خانہ یا کسی سے بھی سختی و درشتگی سے دوچار ہونے پر نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیے۔ اگر ان کی آوازیں بلند اور جملے سخت اور بیہودہ ہو جائیں تو آپ اس کے جواب میں اپنی آواز پست اور کلمات نرم رکھئے۔ اس سے آپ ان کے دل جیت لیں گی اور ان کی محبت حاصل کر لیں گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

”خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین“ (الاعراف : ۱۹۹) (۱)

ترجمہ : نرمی اور عفو و درگزر سے کام لیجئے، اور معروف کی تلقین کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔

(۱) یہ آیت کریمہ حسن اخلاق کے اہم اصول پر مبنی ہے ”خذ العفو“ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو ایسے اقوال و اعمال کا پابند نہ کرے جس پر وہ قادر نہ ہو اسی طرح ایسے آداب و اخلاق کا مطالبہ نہ کرے جس سے وہ محروم ہو۔ ”وامر بالعرف“ کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں میں اچھی باتوں کا حکم سختی و شدت و درشتگی کے بجائے نرمی و خوش اخلاقی سے کیا جائے اور قوی یا فعلی یہ چیزیں معروف یعنی اچھائی کے قبیل سے ہوں نہ باطل و منکر کے قبیل سے، ”اعراض عن الجاهلین“ میں عفو و درگزر کا حکم ہے۔ یعنی سختی و درشتگی کا جواب نرمی اور عفو و درگزر سے دیا جائے۔ اخلاق فاضلہ کے لئے اتنی باتیں کافی ہیں۔ جو نیکی و بھلائی کو برصطحتی اور امن و سلامتی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں

ارشاد ہے : اذفع بالتی ہی أحسن فإذا الذی بینک وبينه عداوة كأنه
 ولی حمیم وما یلقاها إلا الذین صبروا وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم ”
 (فصلت : ۲۳-۳۵)

ترجمہ : آپ نیکی سے (بدی کو) ٹال دیجئے تو پھر یہ ہوگا کہ جس شخص میں اور
 آپ میں عداوت ہے وہ ایسا ہو جائیگا جیسا کہ کوئی دلی دوست ہوتا ہے اور یہ
 بات انھیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے رہتے ہیں .
 اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرما رہے ہیں : ”
 فاصفح عنهم وقل سلام ” (الزخرف : ۸۹)
 ترجمہ : آپ ان سے درگزر فرمائے اور کہدیجئے کہ تم پر سلامتی ہو .

(۳) باحیاء و باوقار رہنا :

شرم و حیاء اور پروقار رہنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ اور نیکی
 و احسان کی جامع صفت ہے۔ چنانچہ آپ سب سے قبل اللہ تعالیٰ سے شرم و حیاء،
 گناہوں کو چھوڑ کر کیجئے اور فرشتوں سے حیا خلوت میں حسب استطاعت سترپوشی
 سے کیجئے، اور اپنے شوہر اور اہل خانہ اور تمام لوگوں سے حیاء اسطور پر کیجئے کہ
 فحش کلامی اور بیہودہ گوئی سے پرہیز کیجئے اور ایسے کسی قول و فعل کا ارتکاب نہ کیجئے

جو آپ کے وقار و حیا و عزت کے منافی ہو، شرم و حیا تمام خیر و بھلائی کی چیزوں کا مجموعہ ہے، اور خیر ہی خیر اور خیرات و برکات کا موجب ہے۔ (۱)

لہذا آپ اپنی خوبیوں کی حفاظت کیجئے اور پردہ پوشی کیجئے، اور رشتہ داروں میں اپنے کو نہ گرائیے، خوش گفتار ہوئیے اور نگاہ کو نیچی رکھئے، کپڑے لمبا کیجئے، سر کو نہ کھولئے، اور ہمیشہ دوپٹہ استعمال کیجئے، اور اسی وقت اسے اتاریئے جب آپ اپنے شوہر کیساتھ خلوت میں ہوں۔

(۲) جو دو و کرم کرنا :

آپ جو دو و کرم، داد و دہش کی صفت سے متصف ہوئیے، کھانے یا پینے یا بہننے کی چیزیں یا دوائیں جو فاضل ہوں اسے فقیر و مسکین میں تقسیم کر دیجئے، ذرا بھی بخل سے کام نہ لیجئے، رفاہی کاموں میں حصہ لیجئے اور شوہر کے مال سے بھی اجازت لینے کے بعد صدقہ و خیرات کیجئے، آپ بھی اس کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گی، (۲) اور عذاب اور مصیبت سے محفوظ رہیں گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد

(۱) "الحیاء کلہ خیر، الحیاء من الایمان، والحیاء لایأتی الابخیار" یہ سب احادیث ضعیفہ کے جملے ہیں۔ جامع الاصول میں ملاحظہ کیجئے: ۶۱۶/۲ - ۳۲۳ و صحیح مسلم: ۱۱/۲۲۲

(۲) بخاری میں ہے "جب کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت سے صدقہ کرتی ہے اسے نصف اور شوہر کو نصف اجر ملتا ہے۔"

گرا می ہے : " فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ. وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنِيسِرُهُ
لِلْيَسْرَىٰ. (اللیل: ۵-۷)

ترجمہ : جس نے دیا اور (اللہ سے) ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا، تو ہم اس کے
لئے راحت کی چیز آسان کر دیں گے۔

لہذا آپ بخل و کنجوسی سے اجتناب کیجئے، اور کم و بیش صدقہ کر کے اپنے
کو آگ سے بچائیے۔ اور پرہیزی کیساتھ احسان و اکرام اس طرح کیجئے جس طرح
آپ عزیز و اقارب کیساتھ احسان و اکرام کرتی ہیں، اور اس کا یقین رکھئے کہ اللہ
تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(۵) احسان و ایثار کرنا :

آپ احسان و ایثار کی صفت سے متصف ہوں، لہذا اپنے اہل خانہ کو اپنے
اوپر ترجیح دیجئے کیونکہ یہ صالحین اور صدیقین کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا
ارشاد گرامی ہے :

"وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلِوَالِدَيْهِمْ خَيْرًا مِّنْ مَّا رَزَقُوا مِنْهُم مِّمَّا رَزَقُوا مِنْهُم مِّنْ قَبْلِ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (الحشر: ۹)

ترجمہ : اور وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فائدہ ہی میں ہوں،
اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے، تو ایسے ہی لوگ تو فلاح
پانے والے ہیں۔

آپ بھوک و پیاس کی شدت برداشت کیجئے تاکہ آپ کے اہل خانہ آسودہ و سیراب رہیں، اور آپ مکان برداشت کیجئے تاکہ وہ آرام کر سکیں اور آپ اسے پستی یا ذلت نہ تصور کیجئے بلکہ یہ آپ کے لئے جمال و کمال ہے۔ آپ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیکر بذات خود سیّدہ ہو جائیں گی، اور سیّدہ مسودہ سے بہتر ہے، حدیث شریف میں ہے . **خادم القوم سيدهم** (۱) یعنی قوم کا خادم ان کا سردار ہوا کرتا ہے، کسی سے کہا گیا کہ فلاں شخص تم میں کیسے سردار بن گیا تو اس نے کہا کہ ہم اس کے محتاج ہو گئے اور وہ ہم سے مستغنی رہا۔ چنانچہ آپ بھی اس صفات کو پہچانئے اور مجاہدہ اور محنت سے اسے حاصل کیجئے۔

(۶) خاموشی و خوش آدابی :

خاموشی اور قلت کلام کو اپنا شیوہ بنائیے اور خیر و بھلائی کی باتیں کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ خیر و بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ (۲) جب آپ گفتگو کیجئے تو مختصر کیجئے اور صرف اچھی اور نیکی کی بات کیجئے، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

(۱) اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

(۲) بخاری ۸/۱۳۱ و مسلم ۱/۲۹

” فلانتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا

وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ” (الاحزاب ۳۳ / ۳۲)
 ترجمہ: تم بولی میں نزاکت مت اختیار کرو (اس سے) ایسے شخص کو خیال (فاسد) پیدا ہونے لگے گا جس کے قلب میں خرابی ہے۔ اور قاعدے کے موافق بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جاہلیت قدیم کے مطابق اپنے کو دکھاتی مت پھرو۔

لہذا آپ اپنے لباس و پوشاک، قول و فعل، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں طہائیت و سکینت اختیار کیجئے، اور حلم و سلم سے کام لیجئے اور غصہ اور چیخ و پکار سے اجتناب کیجئے، اور خوشی و مسرت منانے میں حق و حدود سے تجاوز نہ کیجئے اور لوگوں کو ذلیل و حقیر نہ سمجھئے، ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی حمد و ثنا میں کثرت کیجئے۔

(۷) عدل و انصاف کرنا:

آپ اپنے ساتھ انصاف کیجئے کیونکہ انصاف اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ انصاف کیجئے جس طرح آپ اپنے ساتھ انصاف کو پسند کرتی ہیں اسی طرح دوسرے کے لئے وہ چیز ناپسند کیجئے جو اپنے لئے ناپسند کرتی ہیں، اور اپنے تمام اہل خانہ اور عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کے لئے وہ

چیز پسند کیجئے جو آپ اپنے لئے خود پسند کرتی ہیں، صحیح حدیث میں آیا ہے " تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا آنکہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے " (۱)

جس عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے کے ساتھ آپ اس طرح معاملہ کیجئے جس طرح آپ اپنے ساتھ معاملہ کیا جانا پسند کرتی ہیں، اور اپنے کو دوسرے پر قابل ترجیح نہ خیال کیجئے، اور جس طرح آپ اپنے لئے اچھے الفاظ و کلمات سننا پسند کرتی ہیں، لہذا آپ بھی دوسروں کو ویسے ہی کلمات و جملوں سے مخاطب کیجئے، اور جس طرح آپ اپنی عزت و عصمت اور جان و مال میں کسی طرح ایذا رسانی کو ناقابل برداشت تصور کرتی ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ دوسرے کے لئے ناقابل برداشت خیال کیجئے۔

ان صفات عالیہ سے متصف ہونے کے بعد آپ اپنے ساتھ انصاف کرنے میں کامیاب سمجھی جائیں گی، اور اپنے ساتھ انصاف، حسن خلق، طہارت قلب اور فطری جو دو کرم کا حصہ ہے۔

(۱) بخاری ۸ / ۱۳۱ و مسلم ۱ / ۲۹

خاتون اسلام کی خصوصیات

خاتون اسلام کی کچھ ذاتی خصوصیات ہیں جس میں مرد اس کا شریک نہیں، جس طرح مردوں کی کچھ خصوصیات ہیں جس میں عورت اس کی شریک نہیں ہے، جب ان میں سے کوئی اپنی ان ذاتی خصوصیات سے نکلنا چاہے گا جسے اللہ تعالیٰ نے مختص اور ودیعت فرمائی ہیں اور دوسرے کی خصوصیت اختیار کرے گا تو فطری بگاڑ اور بشری فساد پیدا ہوگا، اور اعلیٰ انسانی اقدار پامال ہو جائیں گی، اور انسانی زندگی، جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا، اور بشری معاشرہ، حیوانی معاشرہ میں تبدیل ہو جائے گا (نعوذ باللہ تعالیٰ)۔

مندرجہ ذیل سطروں میں ہم ان خصوصیات کو ذکر کریں گے جسے شریعت اسلامیہ نے عورتوں کے لئے مخصوص کئے ہیں، لہذا آپ ان سے متصف ہونے کی کوشش کیجئے، اور مرد کو ان کی اجازت نہ دیجئے کہ وہ آپ کا ان میں شریک حیات بنے اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرے۔

(۱) لباس و پوشاک :

خواتین کے لئے کچھ مخصوص لباس ہیں جو مردوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ لباس ان کے فطری مزاج اور ضرورتوں کے لئے مناسب ہوتے ہیں، جیسے ولادت، رضاعت، تربیت اولاد، ان مذکورہ بالا ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لئے کچھ مخصوص لباس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے بحسن و خوبی انجام دے سکے۔

چنانچہ عورتوں کا لباس خوبصورت اور زیب و زینت والا ہونا مناسب ہے اور وہ شوہر کے لئے زیب و زینت استعمال کرے اسی لئے اسلام نے عورت کو مطلقاً زیور پہننے اور ریشمی لباس زیب تن کرنے کی اجازت دی ہے جب کہ ان چیزوں کو مردوں کے لئے حرام قرار دیا ہے۔ (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم لے کر تشریف لائے اور فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لئے حلال ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”أَوَمِنْ يُنْشَأُ فِي الْحُلِيِّ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ“ (الزخرف: ۱۸)

ترجمہ: تو کیا جو زیورات میں پرورش پائے اور مباحثہ میں بھی زولیدہ بیان ہو۔ لہذا عورتوں کا لباس مردوں کے لباس سے مختلف ہونا ضروری ہے، اور جو عورت مرد کا لباس پہنے گی تو وہ مردانگی اختیار کرنے والی سمجھی جائے گی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: ” اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ (۲)

(۱) الحدیث ۲ / ۲۴۲

(۲) بخاری ۷ / ۲۰۵

چنانچہ خاتون اسلام اپنی پنٹلی اور بازو کو اہل خانہ کے سامنے نہیں کھولتی اور نہ ہی وہ اپنے سر اور سینے کو کھولتی ہے تاکہ اس کا بال یا ہار دکھائی دینے لگے، ہاں جب وہ اپنے شوہر کیساتھ تخلیہ میں ہو تو وہ اپنے حسن و جمال کا اظہار جس طرح چاہے کر سکتی ہے کیونکہ اسے شوہر کے لئے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم ہوا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں قربت ہو اور پھر اولاد کی کثرت ہو اور اس طرح کائنات آباد ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور وہ جلال و اکرام والا ہے۔

عورت جب گھر سے باہر کسی ضرورت سے نکلے تو کپڑے کو اچھی طرح سے پہنے اور صرف اپنی آنکھوں کو کھولے رکھے تاکہ راستہ دیکھ سکے اور اسی طرح سے نکلے جب بھی اسے نکلنے کی ضرورت ہو، اور جب اسے مردوں کیساتھ بیٹھنے کی ضرورت پیش آجائے جیسے ٹیکسی، جہاز، یا کسی دینی علمی مجلس یا کسی ضرورت کی جگہ یا رشتہ داروں کی زیارت کے دوران تو وہ اسوقت پردہ نشین اور برقع پوش رہے اور صرف اس کا ظاہری لباس (برقعہ) دکھائی دے۔

یہ لباس وپوشاک میں عورتوں کی کچھ خصوصیات تھی جس میں مرد اسکا شریک نہیں ہے، اسی طرح عورت بھی مردوں کے چہرے اور بازو، پنٹلی، اور گردن، سینے کے کھولنے میں مشابہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی طبیعت و فطرت کے مطابق، و حسب حال حکم ہوا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور درست کیا، اور مقدر کیا اور رہنمائی کی۔ اور عورت اور مرد کی صفات

وخصوصیات الگ الگ بنائی۔

(۲) خانہ نشین ہونا :

خاتون اسلام، خانہ نشین رہتی ہے اور وہی اس کی جائے عمل ہے اور ضرورت ہی کے تحت اس سے جدا ہوتی ہے، بسا اوقات گھریلو کام وکاج اس کی طاقت و استطاعت سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کے پیش نظر اسلام نے مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کی اجازت دی ہے کیونکہ گھر مردوں اور عورتوں کا کارخانہ اور مسرت و فرحت کا آشیانہ ہے۔ گھر میں عورت کی مندرجہ ذیل ذمہ داریاں ہیں، کھانا تیار کرنا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، نماز و ذکر اللہ سے آباد کرنا، اولاد کی پرورش کرنا، شوہر کے بستر کو آرام دہ تیار کرنا تاکہ اس سے وہ خوش ہو، نماز قائم کرنا، طہارت حاصل کرنا کیونکہ شرائط نماز میں بدن، جسم، اور کپڑے کی طہارت و نظافت ہے اور سنن و نوافل ادا کرنا، جو نماز فرض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں اذکار و تسبیحات اور دعا کرنا اور اپنے اس طرح کے وظائف اور معمولات پورے کرنا، ان ذمہ داریوں کے پورے کرنے کے بعد کیا کچھ وقت باہر کام کرنے کے لئے باقی رہ جاتا ہے؟ اور جو کام بھی باہر اس سے کرنے کو کہا جائے گا وہ اس کی فطرت کے منافی ہوگا اور اس سے اس کے گھریلو فرائض اور ذمہ داریاں متاثر ہوں گی جس کے علاوہ وہ قدرت اور استطاعت بھی نہیں رکھتی، اور وہ بقدر ضرورت باہر نکل سکتی ہے اور جب وہ پوری ہو جائے تو گھر واپس آجائے اور بغیر ضرورت نکلنا

نامناسب و فضول ہے جو خاتون اسلام کے شایان نہیں ہے۔

(۳) سرپرست ہونا :

خاتون اسلام کے لئے بعض امور میں کسی سرپرست کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ بعض چیزوں میں دوسروں کی محتاج ہے۔ اور خود مستقل بالذات نہیں ہے، اور یہ اس کی فطرت کی وجہ سے ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔

اور یہ ولایت و سرپرستی شوہر کی یا کسی محرم، جیسے باپ، لڑکا، بھائی، چچا، کی مندرجہ ذیل امور میں ہوتی ہے :

(الف) نکاح :

عورت کے نکاح کے لئے ولی، دو گواہوں، مہر، اور ان الفاظ و کلمات کا کہنا ضروری ہے جو ولی اور نکاح کرنے والا ادا کرتے ہیں۔

(ب) سفر :

کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ ایک دن و رات کی مسافت کے بقدر بغیر محرم کے سفر کرے۔ (۱)

(۱) بخاری ۱/۵۳، مسلم ۲/۱۰۳

(ج) طلاق :

طلاق کی بعض شکل میں ولی طلاق دینے کا مجاز ہو جاتا ہے، جیسے کوئی عورت شادی ہو جانے کے بعد شوہر کے ظلم و ستم سے دوچار ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے تو وہ عورت قاضی کے پاس جا کر مقدمہ دائر کر دے اور قاضی اس عورت کا ولی بن جاتا ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، چنانچہ قاضی عورت کے دفع مضرت کے پیش نظر طلاق دے گا۔

(د) خلوت :

کسی اجنبی سے تخلیہ جیسے ڈاکٹر سے علاج و آپریشن کے وقت کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ مرد و عورت ڈاکٹر اور نرس موجود ہوں۔

(۴) فریضہ جہاد کا سقوط :

عورتوں کی خصوصیات میں فریضہ جہاد کا ان سے ساقط ہونا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور نسوانی کمزوریوں کی وجہ سے معذور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا: کیا عورتوں پر جہاد واجب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتل و قتال نہیں ہے، حج اور عمرہ (۱)

(۱) احمد ۱۶۵/۶، بخاری ۱۵۶/۲

(۵) جمعہ وجماعت کا سقوط :

عورتوں کی خصوصیات میں نماز جمعہ اور جماعت کا ساقط ہونا ہے اور یہ دونوں چیزیں مردوں کے لئے واجب ہیں، کیونکہ عورت اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور مشغولیت کیوجہ سے معذور ہے کیونکہ گھریلو نظام اس کے بغیر درست نہیں ہو پاتا۔“

(۶) جنازے میں عدم حضور :

عورتوں کے لئے جنازہ میں شرکت اور اس کے اٹھانے وکندھا دینے اور قبر پر جانے، چاہے وہ باپ، بھائی، ماں، بہن کیوں نہ ہو، کی ممانعت آئی ہے، تاکہ اسے ان چھوٹی و بڑی پریشانیوں سے دور رکھا جائے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے سکے جن کی ادائیگی سے مرد قاصر ہیں۔

(۷) عورت کی آواز کا پردہ :

عورت کی آواز کا صرف ان کے محرموں ہی کو سننا جائز ہے جیسے شوہر، لڑکا، باپ، ماں، وغیرہ اسی لئے عورت کے لئے اذان، اقامت، باآواز بلند قرأت کو مشروع نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کو مردوں میں خطبہ دینے، تقریر کرنے اور خبروں کو پڑھنے، یا عمومی فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے البتہ وہ پردہ سے فتویٰ دے سکتی ہے۔

(۸) سربراہی: (۱)

یہ سربراہی کسی طرح کی بھی ہو، کیونکہ عورت جب سربراہ ہو جائیگی تو اجنبی سے مخاطب ہونے اور ان کے ساتھ اٹھنے و بیٹھنے پر مجبور ہو جائیگی، جیسے عورت کا، امیر، وزیر، اور قاضی، داروغہ و پولس وغیرہ ہونا۔ کیونکہ ان تمام امور میں وہ گھر سے باہر نکلنے اور لوگوں سے اختلاط اختیار کرنے میں مجبور ہے، البتہ عورت کو اپنے محرموں کیساتھ جہاد میں، جب مرد لڑنے میں مشغول ہوتے ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کے لئے اجازت دی گئی ہے، اسی طرح ایسے فارم یا کارخانہ میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں غیر محرم سے اختلاط نہ ہو، یہ تمام پابندیاں ان عورتوں کے لئے ہیں جو جوان ہوں، اور جو عورتیں حمل و حیض سے مایوس ہو کر بوڑھی ہو چکی ہوں تو انھیں گھر سے نکلنے اور مردوں سے گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ان کا خانہ نشین ہونا زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

” والقواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیہن جناح أن یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینة وأن یتستعفن خیر لهن ” (النور: ۶۰)

(۱) بخاری ۱۰/۸ میں ہے: وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائیگی جس نے اپنی زمام حکومت اس عورت کے سپرد کر دی۔

ترجمہ : اور بڑی بوڑھیاں جنھیں نکاح کی امید نہ رہی ہو، ان کو کوئی گناہ نہیں (اس بات میں) کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں (بشرطیکہ) زینت کو دکھلانے والیاں نہ ہوں اور اگر (اس سے بھی) احتیاط رکھیں تو ان کے حق میں اور بہتر ہے۔

(۹) عدت گزارنا :

عورت کی خصوصیات میں طلاق اور شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنا ہے یعنی جب عورت کو طلاق ہو جائے تو حیض والی عورت تین حیض کی مدت عدت گزارے گی۔ کم عمری یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو تین ماہ عدت میں رہے، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ چار ماہ دس دن عدت گزارے۔ اور مرد پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے، اور مرد کے کسی عورت سے نکاح کرنے میں توقف اور انتظار کرنے کو عدت نہیں کہا جائے گا، مثلاً اگر کسی مرد نے بیوی کو طلاق دیدیا اور اب اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے مطلقہ کی عدت گزار جانے کا انتظار کرنا ہوگا، اسی طرح اگر کسی نے چوتھی بیوی کو طلاق دیدیا تو پانچویں سے نکاح کرنے کے لئے اس کی مطلقہ کی عدت گزار جانے کا انتظار کرنا ہوگا، ان دونوں صورتوں میں انتظار کو عدت نہیں کہا جائے گا، اسے محض توقف کہیں گے، کیونکہ طلاق رجعی دینے کی صورت میں جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے بیوی سمجھی جاتی ہے، تو مذکورہ بالا

شکل میں دو بہنوں کا جمع اور چار سے زائد عورت سے نکاح ثابت ہوگا، جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔

(۱۰) مہر کا استحقاق:

عورت کی خصوصیات میں شادی کے بعد شوہر سے مہر کا استحقاق ہے، مرد کو یہ حق نہیں کہ بیوی سے مہر کا مطالبہ کرے اگرچہ نکاح عورت کی طلب اور پیش قدمی سے ہوا ہو۔

مذکورہ بالا یہ دس خصوصیات ہیں جن سے خاتون اسلام مصنف ہیں اور اس میں مرد ان کا شریک نہیں، اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”ولیس الذکر کالأنثی“ (آل عمران: ۳۶) اور لڑکا (اس) لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔

لہذا ان خصوصیات کی رعایت واجب ہے۔ اور عورت کو مجبور نہ کیا جائے کہ ان خصوصیات میں سے کسی ایک سے بھی دستبرار ہو، کیونکہ یہ عورتوں پر ظلم ہوگا جو ناقابل قبول ہے اور اس کی وجہ سے معاشرہ میں ایسا فساد پیدا ہوگا جس سے زندگی کا جمال و کمال نیست و نابود ہو جائے گا۔

عورتوں اور مردوں میں فرق

بعض چیزوں میں عورت، مرد کے ساتھ محض جزوی طور پر شریک رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جسمانی و عقلی اعتبار سے فطری طور پر کمزور پیدا فرمایا ہے۔ اس لئے عورتوں کو اپنے حقوق طلبی میں اس فطرت اور طاقت اور حکم شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
ذیل کے امور سے اسکی وضاحت ہو جاتی ہے۔

(۱) نصف شہادت :

مالی مسائل میں عورتوں کی شہادت مردوں کی نسبت نصف شمار ہوتی ہے "اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

" واستشهدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء أن تضل إحداهما فتذکر إحداهما الأخری۔"
(البقرہ : ۲۸۲)

ترجمہ : اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ کر لیا کرو، پھر اگر دونوں مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو تاکہ ان دو عورتوں میں سے ایک دوسری کو یاد دلائے اگر کوئی ایک ان میں سے بھول جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا عورت کی شہادت مرد کے نصف شہادت کے برابر نہیں ہوتی ہے؟ (۱)

(۲) نصف وراثت :

عورت مرد کی طرح وراثت میں حصہ پاتی ہے البتہ تھوڑے فرق کے ساتھ :
(الف) عورت اپنے بھائی کی موجودگی میں وراثت میں نصف حصہ پاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ“ (النساء ۱۱)

ترجمہ : اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے۔

(ب) مرد بذات خود عصبہ ہوتا ہے جب کہ عورت اپنے بھائی اور اپنے مساوی چچا زاد بھائی کے ساتھ عصبہ ہوتی ہے۔

(۳) زوجین کی وراثت :

شوہر بیوی کے ترکہ میں نصف کا وارث ہوتا ہے جب اس کی اولاد نہ ہو، اور چوتھائی کا حقدار ہوتا ہے جب کوئی اولاد ہو، اور عورت شوہر کے ترکہ میں

(۱) بخاری : ۸۰/۱

چوتھائی کی وارث اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے، اور آٹھویں کی حقدار اولاد ہونے کی صورت میں ہوتی ہے، اس طرح نمایاں طور پر فرق واضح ہو جاتا ہے۔ (۱)

(۴) دیت میں فرق :

عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف ہوتی ہے اور اسی قاعدے سے زخمی وغیرہ ہونے کی شکل میں اگر تاوان مرد کے تہائی دیت تک پہنچ جائے تو نصف کی مستحق ہوتی ہے۔

(۵) حج و عمرہ میں احرام :

عورت مرد ہی جیسا حج اور عمرہ کا احرام باندھتی ہے، البتہ اس کے احرام کا کپڑا خود اس کا لباس ہوتا ہے اور وہ اپنا سر ڈھاکتی ہے اور مرد دو چادروں میں احرام باندھتا ہے اور اپنا سر کھولے رکھتا ہے۔

(۱) سورۃ النساء آیت نمبر ۱۲ سے ثابت ہے۔

(۶) کفن کے کپڑے :

عورت کو مرد ہی جیسا کفن دیا جاتا ہے البتہ عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے جب کہ مرد کو صرف تین کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔

(۷) حیض و نفاس میں نماز و روزہ :

عورت مرد ہی کی طرح نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، البتہ عورت حیض و نفاس کے دوران نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی مسجد میں داخل ہوتی ہے، حدیث میں ہے ”عورت جب حیض و نفاس سے دوچار ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے“ (۱)
”حائضہ اور جنبی کے لئے مسجد میں جانا میں حلال نہیں سمجھتا“ (۲)

(۸) جائے عمل کا فرق :

حسب طاقت و استطاعت عورت بھی مرد کی طرح کام کرتی ہے البتہ وہ دور دراز اور مردوں سے بعید تر ہو کر اور اختلاط کے ماحول میں کام نہیں کرتی یعنی نامناسب اور ناموزوں ماحول میں کام نہیں کرتی۔

(۱) بخاری ۱ / ۸۰

(۲) ابوداؤد ۱ / ۵۳

(۹) نان و نفقہ کا فرق :

مرد پر عورت کا نان و نفقہ واجب ہے، جب کہ عورت پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے اگرچہ عورت صاحب حیثیت ہو، کیونکہ مرد ایسی ذمہ داری کا زیادہ اہل ہوتا ہے اور عورت قاصر ہوتی ہے۔

(۱۰) نماز کی صفوں میں فرق :

نماز میں عورتوں کی صفیں مردوں کی صفوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہ چند عورتوں اور مردوں میں ماہہ الامتیاز مسائل تھے جو شریعت اسلامیہ سے ثابت ہیں، لہذا عورت کو یہ حق نہیں کہ اس سے تجاوز کرے اسی طرح مرد سے بھی اسے اختیار کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا تاکہ شریعت الہیہ اپنے فطری قوانین کے ساتھ انسانوں کے نظام حیات پر حاوی رہے اور قیامت تک ان کی زندگیوں کو مکمل و منظم کرتی رہے۔

خاتون اسلام کے حقوق

اسلام میں عورتوں کے کچھ عام حقوق ہیں، جسے پوری آزادی سے جب چاہے حاصل کر سکتی ہے، جو یہ ہیں :

(۱) حق ملکیت :

عورت مکانات، جائیدات، کارخانے، باغات، سونے و چاندی، مختلف قسم کے جانوروں جیسے اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کی مالک بن سکتی ہے چاہے وہ بیوی ہو یا ماں، لڑکی ہو یا بہن، اور وہ ان تمام چیزوں میں مالکانہ تصرف کرنے کا حق رکھتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

”للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن“ (النساء : ۳۲)

ترجمہ : مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ (ثابت) ہے، اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ (ثابت) ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ” اے عورتوں کی جماعت تم لوگ صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ ہو“ (۱)

(۱) بخاری ۱۳۳/۲، مسلم ۸۰/۳

مذکورہ آیت کریمہ عورتوں کی ملکیت کی واضح دلیل ہے کیونکہ کلمہ "اکتسبن" میں عورتوں کی طرف کمانے کی نسبت کی گئی ہے، اور حدیث میں صدقہ کرنے کا حکم جزوی طور پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ عورت مالک ہوا کرتی ہے کیونکہ صدقہ کا حکم اسی شخص کو ہوگا جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔

(۲) حق نکاح و طلاق :

عورت کو نکاح اور شریک حیات کے انتخاب کا پورا حق ہے اسی طرح اسے طلاق کے مطالبہ کا حق ہے جب ظلم و ستم سے دوچار ہو۔ یہ وہ حقوق ہیں جو بالاجماع ثابت ہیں۔ ایسی صورت میں دلائل کا مطالبہ بے سود ہے۔

(۳) حق عبادت :

عورتوں کو بدنی و مالی، فرض و نفل ہر طرح کی عبادت کرنے کا حق ہے، جس طرح فرض کی ادائیگی میں پوری طرح آزاد ہے اسی طرح محرمات کے چھوڑنے میں بھی پورا حق رکھتی ہے، البتہ نفل عبادتیں جب شوہر کے واجب حقوق سے متصادم ہوں تو، حق واجب کو نوافل پر ترجیح دی جائے گی اور یہ معقول سی بات ہے۔ عورت کو چاہئے کہ شوہر کی موجودگی میں نفل روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس کی اجازت دیدے۔

حدیث میں ہے " رمضان کے علاوہ کسی دن عورت شوہر کی موجودگی میں روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس کی اجازت دیدے " (۱)

(۴) حق تعلیم:

جن علوم و معارف کو حاصل کرنا واجب ہے اسے عورت کو بھی حاصل کرنے کا پورا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادتوں کے کرنے کا صحیح طریقہ، وہ حقوق جس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے ان کی معرفت، عام آداب اور اعلیٰ اخلاق اور اقدار کی معلومات جس سے وہ متصف ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" فاعلم انه لاله الا الله " (محمد: ۱۹) ترجمہ: آپ یقین کیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے " طلب العلم فریضة علی کل مسلم (۱) ترجمہ: علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔

(۵) حق صدقہ و خیرات:

عورت کو یہ حق ہے کہ اپنے مال سے جتنا چاہے صدقہ کرے، اور اسے یہ بھی حق ہے کہ اپنے اوپر یا شوہر، اولاد، والدین پر جتنا چاہے خرچ کرے

(۱) بخاری ۴/۲۹۱ و مسلم ۳/۹۱

(۲) ابن ماجہ صفحہ ۸۱

بشرطیکہ فضول خرچی کے حدود تک نہ ہو، جس کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ اس وقت ایسے مرد جیسی ہو جاتی ہے جو یوتوف ہو۔ (۱)

(۶) حق محبت و نفرت :

عورت کو یہ بھی حق ہے کہ جس سے چاہے محبت و نفرت کرے، چنانچہ وہ نیک و پرہیزگار عورتوں سے محبت اور ان کی زیارت کر سکتی ہے اور انھیں ہدیہ و تحفہ اور ان سے خط و کتابت کر سکتی ہے اور ان کی مزاج پر سی اور مصیبت میں غمخواری کر سکتی ہے، اسی طرح بری بدکار عورتوں سے نفرت کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ان سے قطع تعلق کر سکتی ہے اور اسی طرح سے نیک و دیندار مردوں سے محبت کر سکتی ہے، البتہ ان کی زیارت اور ملنا جائز نہیں اور ان سے مصیبت کے وقت کسی طرح ہمدردی و غمخواری کا اظہار نہ کرے کیونکہ اس سے شوہر اور اہل خانہ کو ناگواری ہوگی، ہو سکتا ہے کہ فتنہ پیدا ہو جائے جب کہ اللہ و فی اللہ محبت و تعلق میں کوئی دینی غرض و غایت شامل نہیں ہوتی۔

(۱) جو فضول خرچی میں اپنا مال ضائع کر دیتا ہے۔

(۷) حق وصیت :

عورت اپنی زندگی میں اپنے ایک تنائی مال میں سے وصیت کر سکتی ہے اور اس کی وفات کے بعد بغیر اعتراض کے اس کی وصیت نافذ کی جائی گی، کیونکہ وصیت اپنا ذاتی حق ہے اور یہ جس طرح مردوں کے لئے جائز ہے عورتوں کے لئے بھی مشروع ہے کیونکہ ہر شخص آخرت میں اجر و ثواب کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً واعظماً اجزاً " (المزمل : ۲۰)

ترجمہ : اور جو کچھ بھی نیک عمل اپنے لئے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور اجر میں بڑھا ہوا پاؤ گے۔

(۸) حق لباس و پوشاک :

عورت کو پورا حق ہے کہ سونا و چاندی اور ریشمی ملبوسات میں سے جو جی چاہے زیب تن کرے جب کہ مردوں کے لئے ان دونوں چیزوں کا استعمال حرام کر دیا گیا ہے، ہاں اسے اس کا حق نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار کر رہنہ ہو جائے یا جسم کا صرف نصف و چوتھائی ڈھاکے یا سر و سینہ و گردن کھلا رکھے البتہ جب شوہر کے ساتھ تھلیہ میں ہو، اسی طرح اس کو سٹرک پر چہرہ و بازو کھول کر نکلنے کا حق نہیں ہے بلکہ چہرہ ڈھانکنا واجب ہے کیونکہ چہرہ ہی اصلاً حسن و جمال کی جگہ ہے اور زیب و زینت کا مظہر ہے اسی طرح وہ ہاتھوں میں مہندی اور

سونے کی انگوٹھی استعمال کر سکتی ہے۔

(۹) حق حسن وجمال :

عورت شوہر کے لئے حسن وجمال اختیار کرنے کا حق رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ آنکھوں میں سرمہ، ہونٹوں پر لپسٹک لگا سکتی ہے اور اچھے سے اچھا لباس پہن سکتی ہے مگر ایسا لباس پہننے سے اجتناب کرے جو بدکار اور فاحشہ و فاجرہ عورتوں کا لباس ہو، کیونکہ ان سے ان کی مشابہت ہو جاتی ہے، اور خاتون اسلام کو ہر شک و شبہ کی چیز سے دور رہنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

”أومن ينشأ فى الحلیة وهو فى الخصام غیر مبین“ (الزخرف : ۱۸)

ترجمہ : تو کیا جو زیورات میں پرورش پائے اور مباحثہ میں بھی زولیدہ بیان ہو۔ اس ارشاد باری تعالیٰ میں عورتوں کے لئے مختلف قسم کے زیورات اور زیب و زینت کی چیزیں استعمال کرنے اور زیب تن کرنے کی واضح دلیل ہے تاکہ وہ اپنی فطری ذمہ داری یعنی اولاد کی افزائش کو بخوبی انجام دے سکے۔

(۱۰) حق طعام وشراب :

عورت کو بھی مردوں جیسا تمام عمدہ و لذیذ اور طاہر و طیب چیزوں کے کھانے اور پینے کا حق ہے، جو چیزیں مردوں کے لئے حلال ہیں وہ عورتوں کے لئے بھی حلال ہیں اور جو ان کے لئے حرام و ممنوع ہیں وہ عورتوں کے لئے بھی ممنوع ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

”کلوا وشربوا ولا تسرفوا انه لا یجب المترفین“ (اعراف : ۳۱)

ترجمہ : اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو، بیشک وہ (اللہ) مسرفوں کو پسند نہیں کرتا۔

یہ خطاب عام مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کے لئے ہے۔

شوہر پر بیوی کے حقوق (۱)

عورتوں کے کچھ مخصوص حقوق ہیں جو ان کے شوہروں پر واجب ہیں، یہ حقوق ان حقوق کے عوض میں ہیں جو عورتوں پر مردوں کے لئے واجب ہیں، جیسے شوہر کی اطاعت جبکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت نہ ہو، اس کے کھانے، پینے، لیٹنے کا انتظام کرنا، اس کی اولاد رضاعت و پرورش کرنا، اس کے مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اور اپنے کو تمام برائیوں کے محفوظ رکھنا، مباح و جائز زینب و زینت اختیار کرنا۔ یہ ان حقوق کی اجمالی تشریح تھی جو عورتوں پر واجب ہیں۔

اسی طرح عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جو مردوں پر واجب ہیں جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد گرامی میں بیان فرمائی ہے:

”ولمن مثل الذین علیہن بالمعروف“ (البقرہ: ۲۲۸)

ترجمہ: اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ عورتوں پر حق ہے موافق دستور (شرعی) کے۔

(۱) یہ حقوق قرآن و سنت سے ثابت ہیں، حدیث میں ہے، سلو تمہاری بیویوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تمہاری بیوی کے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ (ترمذی ۲/۳۵۸)

ان حقوق واجبہ کو ہم مندرجہ ذیل سطور میں پیش کر رہے ہیں، جس کا وہ بے خوف و خطر مطالبہ کر سکتی ہے، شوہر کے لئے ضروری ہے وہ ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے الا یہ کہ بیوی از خود بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے۔

(۱) نان و نفقہ :

شوہر پر حالت کسادگی و تنگی دونوں حالت میں حسب استطاعت بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، یعنی کھانے و پینے، رہائش، و ملبوسات اور دوا علاج کا انتظام کرنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے " لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاه اللہ لا یکلف اللہ نفساً الا ما آتاه " (طلاق : ۷) ترجمہ : اور وسعت والے کو خرچ اپنی وسعت کے موافق کرنا چاہئے، اور جس کی آمدنی کم ہو اسے چاہئے کہ وہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی پر اس سے زیادہ بار نہیں ڈالتا چاہتا جتنا اسے دیا ہے۔

(۲) حق مباشرت :

عورت سے ہم بستری کرنا اس کا حق ہے اور شوہر پر واجب ہے، اگر شوہر کی دوسری بیویاں ہوں تو ان کے مابین عدل و انصاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

”اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس پر میں قادر ہوں، اور مجھے اس پر مواخذہ نہ فرما جس پر آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں ہوں“ (۱)

(۳) حق حفاظت :

عورت کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت شوہر پر واجب ہے، اور کوئی کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کے ذمہ اس کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

”الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم“ (النساء : ۳۴)

ترجمہ : مرد عورتوں کے سر دھرے ہیں ، اس لئے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ اور اس لئے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔

(۴) حق تعلیم و تربیت :

عورت کی دینی تعلیم و تربیت شوہر پر واجب ہے، اگر وہ بنفس نفیس نہیں دے سکتا تو مسجدوں میں مجالس علم میں جانے کی اجازت دے ، یا ایسی محفوظ جگہ پر جہاں پردے کے ساتھ صرف عورتوں کے دین سیکھنے و سکھانے کا انتظام ہو، اور وہاں پر کسی طرح فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔

(۱) ابو داؤد ۱ / ۲۹۲ ، ترمذی ۳ / ۳۷۷

(۵) حق حسن معاشرت :

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

”وعاشرهن بالمعروف“ (النساء : ۱۹) اور عورتوں کیساتھ حسن سلوک کرو۔
حسن معاشرت یہ ہے کہ ہمبستری سے گریز نہ کرے۔ اور عورت کو گالی و گلوچ
اور اس کی ذلت اور اہانت سے اجتناب کرے اور اسے نہ تادیب کرے الا یہ
کہ وہ نافرمانی پر اتر آئے، کیونکہ شوہر کو تادیب کرنے کا حق ہے۔ وہ یہ کہ اسے
نصیحت کرے اور بستر پر نہ سلانے، یا صرف اتنی تیبیہ کرے جس سے کوئی زخم
نہ آئے، اور حسن معاشرت یہ بھی ہے کہ اگر فتنہ کا خوف نہ ہو تو اس کے
میکے اور رشتہ داروں سے ملنے جلنے اور زیارت سے منع نہ کرے۔ اور اسے ایسے
کام پر مجبور نہ کرے جسکی وہ طاقت نہ رکھتی ہو، اور اس کے ساتھ حسن سلوک
سے پیش آئے، قول حسن اور حسن عمل سے برتاؤ کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

”تم میں وہ لوگ بہتر ہیں، جو اپنے اہل و عیال کے لئے بہتر ہیں، اور میں اپنے
اہل و عیال کے لئے بہتر ہوں“ (۱)

(۱) ترمذی ۵/۷۰۹، ابن ماجہ صفحہ ۶۳۶

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا :
”عورتوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے والا کریم ہی ہوتا ہے اور ان کے
ساتھ اہانت کا معاملہ کرنے والا کمینہ ہوتا ہے“ (۲)
ارشاد فرمایا :

عورتوں کیساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں . (۱)

(۱) متفق علیہ

(۲) ترمذی ۳ / ۲۵۸ ، ابن ماجہ صفحہ ۵۹۲

خاتون اسلام کی خوبیاں

روحانی، جسمانی، عقلی اخلاقی کمالات اور خوبیوں کا حصول ہر انسان کا خواہ وہ مرد ہو یا عورت مقصد حیات ہے، اور کوئی شخص بھی اس کی جدوجہد سے روکا نہیں جاسکتا، شریعت الہیہ انسان کے ان ہی مقاصد کی تکمیل کے لئے نازل کی گئی ہے تاکہ وہ ذہنی اور اخروی دونوں زندگیوں میں حیات طیبہ و سعیدہ سے بہرہ ور ہو۔

ذیل کی سطور میں روحانی، جسمانی، اخلاقی و عقلی خوبیوں اور کمالات کے حصول کے اسباب و وسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں :

روحانی خوبی :

خاتون اسلام کی سب سے بڑی اہم و روحانی خوبی اور اس کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ ”وہ ایمان کامل اور عمل صالح کی عظیم صفات سے متصف ہو، (۱)

(۱) اس مضموم کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرما رہے ہیں ”قد أفلح من زكاهما وقد خاب من دساها (۹) الشمس“

ترجمہ : بامراد ہو گیا جس نے اپنی جان کو پاک کر لیا، اور وہ یقیناً بامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ کیونکہ تزکیہ نفس عمل صالح سے ہوتا ہے، تدسیہ شرک اور گناہوں سے ہوتا ہے۔

اور شرک اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے۔ کیونکہ انسان کی روح ایمان اور عمل صالح سے پاکیزہ، شرک باللہ اور گناہوں کے ارتکاب سے گندہ و راکندہ ہو جاتی ہے اور بندہ ایمان کی تجدید و تقویت اور عمل صالح کی کثرت اور شرک اور گناہوں سے دروی اور نفرت کر کے اپنی روحانیت اور تزکیہ نفس میں ترقی کر کے مراحل طے کرتا رہتا ہے یہاں تک وہ اپنی روحانیت کی طہارت و شفافیت میں فرشتوں سے مشابہ اور قریب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے اور شرکیہ اعمال کا ارتکاب اور ظاہری و باطنی کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا تو وہ جن اور شیاطین سے قریب اور ان کی سطح پر اتر آتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔

چنانچہ خاتون اسلام کی روحانی سب سے اہم و اعلیٰ خوبی کے حصول کا ذریعہ ایمان کامل اور عمل صالح سے متصف ہونا اور شرک اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کی معلومات حاصل کی جائے، زیر نظر کتاب میں ہم نے ایسی معلومات فراہم کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔

جسمانی خوبی :

خاتون اسلام ہر ان اسباب ووسائل کو اختیار کر سکتی ہے جو اس کی جسمانی صحت اور حسن وجمال کے لئے مفید و مناسب ہو، اور یہ اسکا ذاتی حق ہے، لہذا وہ دوا علاج اور صحت کی درستگی اور جسمانی کمزوری کے ازالہ کے لئے مباح دوائیں استعمال کر سکتی ہے تاکہ جسمانی نظام درست ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و بھکر سے عبادت کر سکے اور شوہر کی خدمت اور اہل خانہ اور بچوں کی پرورش بحسن و خوبی انجام دے سکے، بلکہ اپنے حسن وجمال کے اضافے اور نسوانیت کو سنوارنے کے لئے ہندی، سرمہ، سونے و چاندی کے زیورات کو استعمال بھی کر سکتی ہے، اور شوہر یا باپ میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان آرائش اور زیبائش، حفظان صحت اختیار کرنے سے اسے روکے، وہ بوقت ضرورت دانت لگوا سکتی ہے، اور کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اسے درست کر سکتی ہے، البتہ وہ کسی حرام چیز سے دوا علاج نہ کرائے اور ناجائز چیزوں سے میک اپ نہ کرے چنانچہ وہ اپنے دانتوں کے درمیان خلاء نہ پیدا کرائے اور نہ اپنی جلد کو کھرچوائے اور نہ اپنے چہرے کے بال اکھاڑے اور نہ اپنے بال میں دوسرا بال ملائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیز سے علاج کرانے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

اسی طرح آپ نے صحیح حدیث میں "بال ملانے والی، گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور دانتوں کے درمیان حسن کے لئے کشادگی کرانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے" (۱)

عقلی خوبی:

خاتون اسلام اپنے عقلی و فکری کمالات کے حصول کے لئے ہر طرح کے وسائل و اسباب اختیار کرنے کا حق رکھتی ہے، کیونکہ عقل و فہم کی وجہ سے انسان تمام شر و فتن سے محفوظ رہتا ہے اور ہلاکت سے بچ جاتا ہے، جو عقل و فہم سے محروم ہے وہ دین سے بھی محروم ہے، (۲) اور جو دین سے محروم ہو جائے اس کے اندر کوئی خوبی اور کوئی سلامتی نہیں ہے، عقل ہی سے انسان، حیوان سے ممتاز ہوتا ہے، لہذا ذہنی ارتقاء اور عقلی عروج کے لئے علم و معرفت اور تجربے کا حصول اور جد و جہد ایک عظیم الشان مقصد ہے۔

ذہنی ارتقاء اور عقلی کمال کے حصول کا ذریعہ کتاب و سنت کے علوم و معارف میں عبور حاصل کرنا ہے، اور علماء کی مجالس سے استفادہ اور دینی و علمی کتابوں کا مطالعہ، اور نیک و صالح خواتین کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

(۱) بخاری ۴ / ۲۱۲ مسلم ۶ / ۱۶۵

(۲) کیونکہ شرعی پابندیوں کے لئے عقل کا ہونا شرط ہے

حدیث میں ہے کہ "ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ہم خواتین کے لئے ایک دن (تعلیم و تدریس کے لئے) مخصوص فرمادیجئے کیونکہ مرد ہم سے سبقت لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم سے فلاں کے گھر میں وعدہ ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور ان کو وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت فرمائی" (۱) اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انصار و مہاجرین کی خواتین سے راضی ہو جا۔

اخلاقی خوبی :

خاتون اسلام کے لئے اخلاقی خوبی اور اس میں کمال حاصل کرنا غیر معمولی اور بہترین مقصد ہے، اور اخلاق حسنہ حیات طیبہ کی بنیاد اور اس کی اصل الاصول ہے، امیر الشعراء احمد شوقی کا شعر ہے ۔

وإنما الأمم الأخلاق ما بقیت فإن ہم ذہبت أخلاقهم ذہبوا (۲)
 امتیں اس وقت تک باقی اور بام عروج پر رہتی ہیں جب تک کہ ان میں اخلاق

(۱) بخاری صفحہ ۳۶۸

(۲) احمد شوقی کا رسالہ "اسواق الذهب" ادب و حکمت کا شاہکار ہے

باقی رہتا ہے اور جب ان سے اخلاق رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ قومیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں "وانک لعلی خلق عظیم" (الْقَلَمُ : ۴) آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں "تکمیل اخلاق" بیان فرما رہے ہیں ارشاد ہے: میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔ (۱)

کیونکہ اخلاق فاضلہ سے متصف شخص سے یہ انتہائی بعید اور ناقابل تصور ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے کفر یا کفرانِ نعمت کرے اور خلقِ حسن سے ان گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھے گا، اسی طرح یہ حسنِ خلق سے شر و فساد اور خبث و خباثت سے دور رکھے گا۔

لہذا ہر مسلمان خاتون کو یہ حق ہے کہ اخلاقِ حسنہ حاصل کرے اور اس میں ترقی و عروج کے منازل طے کرے تاکہ اعلیٰ اقدارِ خواتینِ اسلام کی صف میں شامل ہو جائے جو اپنے شرف اور فضل اور حسنِ خلق میں مشہور ہیں اور وہ دنیا کی دوسری عورتوں میں ممتاز ہو جائے۔

(۱) احمد ۳ / ۲۸۱، موکلا صفحہ ۹۰۲

اخلاق فاضلہ کے حصول کا طریقہ بھی کتاب وسنت کے مطالعہ اور اس کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہوتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا "کان خلقه القرآن" (۱) قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ لہذا خاتون اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور حیات طیبہ اور خواتین اسلام کی صفات و حیات کا مطالعہ کرنا چاہئے تاکہ ان کے اخلاق کی تکمیل ہو اور وہ خود اخلاق فاضلہ کا نمونہ بن سکے، اور یہ اس کا حق ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور ہم نے زیر نظر کتاب میں اخلاق حسنہ اور عادات فاضلہ کی بہت سی چیزیں بیان کی ہیں آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے انشاء اللہ کامیابی سے ہمکنار رہیں گی۔

(۱) مسلم: ۱۶۹/۲

خاتون اسلام کے لئے اسوہ حسنہ (۱)

ہم اس عنوان کے تحت خاتون اسلام کے لئے چند نمونے سلف صالحین کی خواتین کی حیات طیبہ سے پیش کر رہے ہیں تاکہ انہیں اپنا اسوہ و نمونہ بنایا جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے، اور اسی لئے دینی و عقلی کمال حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(۱) حضرت سارہ کا توسل :

حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ شاہ مصر کی خلوت میں پیش کی گئیں تو اس نے دست درازی کرنا چاہی تو انھوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر یہ دعاء مانگی "اللهم إن كنت تعلم انى أمنت بك، وبرسولك ، واحصنت فرجى الأعلى زوجى فلا تسلط عليّ هذا الكافر"

اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان رکھتی ہوں اور میں

(۱) اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے "فبما هم اقتدہ" (انعام : ۹۰) ان کی ہدایت کی اقتدا کیجئے، اور پھر مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنے کا حکم دیا "لقد كان في رسول الله اسوة حسنة" (آزاب : ۲۱) تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔

نے اپنی شرمگاہ کی سوائے اپنے شوہر کے، حفاظت کی ہے، اس لئے آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمائیے۔

اس دعا کے بعد کافر پر بے ہوشی طاری ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنی ایرٹیاں زمین پر رگڑنے لگا، جب اسے افاقہ ہوا تو پھر بد فعلی کا ارادہ کیا تو پھر دعاء کی، چنانچہ پھر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اسی طرح تین مرتبہ ہوا، بالآخر اس کافر بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے ہمارے پاس ایک شیطان کو بھیج دیا ہے اسے ابراہیم کو واپس کر دو اور اس نے مزید حضرت ہاجرہ کو تحفہ میں عطا کیا، چنانچہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس واپس آ گئیں جب کہ ظلماً غصب کر لی گئیں تھیں۔

اور انہوں نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک کافر کو زیر کیا اور ایک خاتون ہدیۂ عطا کیا۔ (۱)

آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت سارہ نے کس طرح ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جو کہ عمل صالح ہے اور اس کے وسیلہ سے دعاء فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاء کس طرح قبول فرمائی کہ انہیں کافر کی زیادتی سے محفوظ رکھا بلکہ اس سے حضرت ہاجرہ کی شکل میں ایک ہدیہ بھی دلویا جن سے بعد میں حضرت اسمعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد پیدا ہوئے۔

(۱) بخاری ۱۰/۳

لہذا آپ بھی کیوں نہیں اس طرح کا صحیح اور مشروع وسیلہ اختیار کرتیں
یعنی یہ کہ دو رکعت نماز پڑھئے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان اور
عمل صالح کے وسیلے سے دعاء کیجئے، اور ممنوع وسیلے جیسے فلاں کی جاہ، فلاں کے
حق، وغیرہ سے اجتناب کیجئے۔

(۲) حضرت ہاجرہ کا توکل :

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہء مکرمہ میں
بیت اللہ کے قریب ان کے شیر خوار بچے کے ساتھ چھوڑ کر فلسطین واپس
جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے فرمایا ”کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے“
یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں اس بچے کے ساتھ بے آب و گیاہ اور نامانوس
علاقہ میں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے تو ابراہیم نے فرمایا، ہاں، تو حضرت ہاجرہ
نے کہا: اب آپ تشریف لے جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ (۱)
ملاحظہ کیجئے حضرت ہاجرہ نے توکل باللہ کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے، تو
کیا اللہ تعالیٰ نے انھیں ضائع کر دیا تھا؟ جواب ہرگز نہیں، بلکہ ان کی بہترین
نگہداشت کی اور اکرام و انعام سے نوازا۔
اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد
و نصرت فرماتے ہیں۔

(۱) بخاری ۳ / ۱۷۲

(۳) حضرت حنہ زوجہ عمران کی نذر والتجاء :

حضرت حنہ جو حضرت مریم کی والدہ ماجدہ ہیں ولادت سے مایوس تھیں، انھوں ایک دن اپنے گھر کے باغیچے میں ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کھلا، پلارہی ہے، انھیں اس وقت دیکھ کر بچے کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور ولادت کا جذبہ محسوس ہوا اور یہ بول اٹھیں :

" اے اللہ اگر آپ نے مجھے لڑکا عطا فرمایا تو میں اسے آپ کے بیت (المقدس) میں خادم مقرر کر دوں گی " چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاء قبول فرمائی اور وہ حضرت مریم سے حاملہ ہو گئیں اور حمل ہی کے دوران ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا اور جب ولادت کے ایام قریب تر ہو گئے بالآخر ولادت ہوئی اور لڑکی ہوئی اور انھوں نے انتہائی حسرت اور افسوس میں یہ عرض کیا " قالت رب انی وضعتما انثی واللہ أعلم بما وضعت ولیس الذکر کالأُنثی " (آل عمران : ۳۶)

بولی کہ اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جتا ہے اور لڑکا (اس) لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ انھوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا جس کے معنی خادمہ کے ہیں اور اس کے لئے یہ دعاء کی " رب انی اعیذھا بک وذریتهما من الشیطان الرجیم " اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاء قبول فرمائی اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو شیطان رجیم سے محفوظ فرمایا، ان دونوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ (۱)

غور کیجئے حضرت مریم کی والدہ کس طرح اپنی بچی کے لئے شیطان سے پناہ طلب کر رہی ہیں، آج کی مسلمان خواتین بچوں کی حفاظت کے لئے عجیب عجیب حربے و طریقے اختیار کرتی ہیں، کوئی بچے کے سر کے فریب لوہا رکھتا ہے کوئی ہڈی اور شکر یہ تعویذ و گنڈے سر و گردن میں لٹکا دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو حضرت حہ نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے خالص نذر مانی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاء قبول فرمائی اور انہیں حضرت مریم جیسی بیٹی عطا فرمائی اور پھر انہوں نے کس خوبی سے اسے اللہ تعالیٰ کے حوالہ اور اس کی حفاظت میں دے دیا، اور کون اس سے زیادہ خوبی سے استعاذہ کر سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی اور بیٹی کے بیٹے کو کس طرح شیطان رجیم سے محفوظ رکھا۔

لہذا آپ بھی کیوں نہیں ام مریم علیہما السلام جیسی منت جو خالص اللہ کے لئے ہو مانتیں اور سچائی سے اسی کی طرف لوٹتیں۔

(۱) حدیث شفاعت میں حضرت عیسیٰ کا کوئی گناہ مذکور نہیں ہے بخاری ۱۵۸۹ و مسلم: ۱۲۸

(۴) حضرت خدیجہ کا کمال عقل و دین :

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء میں ابتداء وحی نازل ہوئی تو آپ پر خوف سا طاری ہو گیا اور اس کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا : تو انھوں نے ایمان و ایقان سے بھرپور انداز میں آپ کے مستقبل کے بارے میں اس طرح اطمینان دلایا " اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، محروموں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ امانت گزار اور مہمان نواز ہیں، اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں " (۱)

دوسری طرف جب آپ نے حضرت خدیجہؓ کو جب حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کی اطلاع کی تو انھوں نے کہا، جب وہ دوبارہ تشریف لائیں تو میرے متعلق انھیں خبر کیجئے گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور مجھے بھی اس کی خبر کیجئے، جب جبریل آئے تو آپ نے خبر کی، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ گئے، حضرت خدیجہؓ نے کہا اب آپ جبرئیلؑ کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ

(۱) بخاری ۵۰۳/۱

اب آپ میری داہنی ران پر بیٹھ جائیے تو آپ بیٹھ گئے، حضرت خدیجہ نے کہا کیا آپ جبریل کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ چنانچہ آپ وہاں بیٹھ گئے، انہوں نے پوچھا کہ اسوقت آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے اپنا سر کھول دیا اور دوپٹے کو ایک طرف ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور بیٹھے ہوئے تھے پھر انہوں نے دریافت کیا اب آپ جبریل کو دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اسوقت نہیں دیکھ رہا ہوں، حضرت خدیجہ نے کہا: اے میرے چچا زاد بھائی آپ دل مضبوط رکھئے اور بشارت سنئے خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے اور شیطان نہیں ہے۔ (۱)

یہ مذکورہ دونوں واقعے حضرت خدیجہؓ کے کمال عقلی اور قوت یقین کی علامت ہے، پہلے واقعہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ کار خیر اور حسن سلوک کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔

اور دوسرے واقعہ سے یہ استدلال کیا کہ فرشتہ کبھی سرکھلی عورت کیساتھ نہیں بیٹھتا اور شیطان ایسی عورت کیساتھ بیٹھتا ہے، اور اسے فسق و فجور کی دعوت دیتا ہے۔ اور فرشتہ نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ جس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کے شوہر کے پاس آنے والا شخص فرشتہ ہے نہ کہ شیطان۔

(۱) بظاہر اس واقعہ کی کوئی معتد سند نہیں معلوم ہوتی، اور سیرت کی عمومی کتابوں میں اس کا ذکر بھی نہیں ملتا، دوسری طرف شان نبوی کے مطابق بھی معلوم ہوتا ہے۔ (سعید احمد)

(۵) حضرت فاطمہؑ کی حیاء و صبر جمیل :

ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالبؑ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہؑ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا :

"فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سارے اہل خانہ میں عزیز ترین تھیں، اور میری یہ شریک حیات، چکی اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتی تھیں یہاں تک کہ ہاتھوں پر چھالے پڑجاتے تھے، مشک بھر بھر کر لانے سے کمر و سینہ پر نشان پڑجاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتی تھیں جس سے ان کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے۔ اور وہ چولہا پھونکتی تھیں جس سے ان کے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے۔ اور انھیں ان اعمال شاقہ کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچتی تھی"

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اصحاب سے پوچھا عورت میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے۔ کسی کو کوئی جواب نہیں بن پڑا، حضرت علیؑ مجلس میں موجود تھے، انھوں نے اس کا ذکر حضرت فاطمہؑ سے کیا تو انھوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا "ان میں سب سے بڑی خوبی کی چیز یہ ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ مرد انھیں دیکھیں" حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ "کس نے یہ بات تم کو سکھائی" عرض کیا کہ فاطمہؑ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا "

وہ میرا ایک ٹکڑا ہے" (یعنی فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے)

ملاحظہ کیجئے حضرت فاطمہؑ کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

صاحبزادی حضرت علی ابن ابی طالبؑ کی زوجہ محترمہ ، چکی پیس رہی ہیں ، پانی بھر رہی ہیں ، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں ، چولہا جلا رہی ہیں ، کھانا پکا رہی ہیں اور بچوں کی بدذات خود پرورش کر رہی ہیں . نہ تو اکتیاتی ہیں اور نہ غصہ ہوتی ہیں اور نہ ہی شکوہ شکایت کرتی ہیں . اور صبر و تحمل اور تسلیم و رضا کی ایک اعلیٰ مثال بنی ہوئی ہیں . تو کیا آپ جگر گوشہ رسول کی اس میں نقل و تقلید نہیں کرتیں ؟

دوسری طرف شرم و حیا کی عجیب و غریب انداز سے تعریف و تشریح کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ : بہترین عورت وہ ہے ، جسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ خود کسی مرد پر نگاہ نہ ڈالے ، کیا اس سے بڑھ کر کوئی حیا و شرم کی تعریف ہو سکتی ہے . جس کی تعریف خاتون جنت فاطمہ الزہراء اپنے والد معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں فرمایا تھا ، عورتوں کی عظمت اور عصمت اسی میں ہے کہ وہ مردوں کے میدان سے دور رہیں اور مرد بھی ان کے حلقہ سے دور رہیں ، اسے ملاحظہ کرنے کے بعد ، حالات حاضرہ کی خواتین پر طائرانہ نظر ڈالئے کہ وہ کس قدر مردوں سے اختلاط کئے ہوئے ہیں ، انہیں دیکھتی اور ان سے گفتگو کرتی ہیں اور بازاروں اور سڑکوں اور مسجدوں میں اختلاط بڑھتا جا رہا ہے ، اور ٹیلیویژن وغیرہ میں جو مناظر دیکھے جاتے ہیں اس سے تو " الأمان والحفیظ " کہنا چاہئے .

تو کیا آپ خاتون جنت کی شرم و حیا میں تقلید نہیں کرتیں ؟

(۶) حضرت عائشہ کا علم وزہد :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمہت لگائے جانے کے بعد جب آیت

برات نازل ہوگئی جس واقعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تمام اہل خانہ کو شدید صدمہ پہنچا تھا، اس وقت جب سارے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول برات کی بشارت دی تو حضرت عائشہ کے والدین نے ان سے فرمایا: بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو بوسہ دو اور آپ کا شکر یہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا میں صرف اپنے رب کی شکر گزار بنوں گی جس نے میری برات نازل فرمائی، اس کے علاوہ کسی کی شکر گزار نہیں بنوں گی، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "عرفت الحق لاهلہ" انہوں نے حق کو صاحب حق کے لئے پہچان لیا، اس ربانی خاتون کے پاس کون سا علم تھا؟ اور اس خاتون سے زیادہ کس کا علم و فضل گرا ہو سکتا ہے کہ جس کی برات آسمان سے نازل ہو رہی ہے اور اسے اس کی بشارت دی جا رہی ہے۔ خوش خبری سنانا امر حسن ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے قدم چومے اور اس کی ممنون ہو جس نے خوش خبری سنائی ہے تو وہ سمجھتی ہیں اس میں سارا فضل و احسان صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں، اور وہ کہتی ہیں "میں صرف اللہ کی شکر گزار بنوں گی" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں "عرفت الحق لأهلہ" انہوں نے حق کو صاحب حق کے لئے پہچان لیا، اور اسی کو علم حقیقی کہتے ہیں، نہ کہ آج کل کا سطحی علم جو ڈگریوں اور ملازمتوں کے لئے حاصل کئے جاتے ہیں تاکہ ان خواتین پر پاکیزہ پر برتری کا اظہار کیا جائے جو خانہ نشین ہیں۔

زہد عائشہؓ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلقائے راشدین کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عائشہؓ کی خدمت میں ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اسی ہزار درہم بطور ہدیہ بھیجے، وہ اس دن روزے سے تھیں چنانچہ انہوں نے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا شام ہونے تک ایک درہم بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، افطار کے وقت باندی سے فرمایا: میرے افطار کا انتظام کرو، چنانچہ ایک روٹی اور تھوڑا تیل لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی آپ نے آج جو کچھ تقسیم کیا ہے اس میں سے ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں تو اس سے افطار کر لیتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ناراض نہ ہو، اگر تو مجھے یاد دلا دیتی تو شاید میں ایسا کر لیتی۔

کرم عائشہؓ:

حضرت عمرو بن زبیرؓ جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہؓ کو ستر ہزار درہم تقسیم کرتے دیکھا ہے جب کہ وہ خود پہوند لگا کپڑا استعمال کرتی تھیں اور نیا نہیں خریدتی تھیں۔

خشیت عائشہؓ:

اسی طرح قاسم بن محمد حضرت عائشہؓ کے بھتیجے ہیں فرماتے ہیں: میں

روزانہ حضرت عائشہ کی خدمت میں سلام کرنے جاتا تھا، ایک دن جب پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز میں اس آیت کو بار بار پڑھ کر رو رہی ہیں " فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ " (الطور: ۲۷) سو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچالیا، چنانچہ میں وہاں کھڑے کھڑے تھک گیا اور اپنے کام سے بازار چلا گیا جب دوبارہ واپس آیا تو دیکھا کہ اسی طرح نماز پڑھ رہی ہیں اور اس میں زار و قطار رو رہی ہیں۔

خاتون اسلام یہ علم اور زہد اور خوف و خشیت اور جو دو کرم کے اعلیٰ نمونے ہیں تو آپ کیوں نہیں اپنی ماں کی اس میں نقل و تقلید کرتیں؟

(۷) کچھ گمنام خواتین کا تقویٰ:

علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک نیک عورت آٹا گوندھ رہی تھی کہ اس گوندھنے کے دوران اس کے شوہر کی وفات کی خبر موصول ہوئی، تو اپنا ہاتھ اس سے اٹھالیا اور کہا کہ، اس کھانے میں ہمارے کچھ لوگ شریک ہو گئے ہیں۔

ایک دوسری عورت کا قصہ ہے کہ وہ چراغ جلا رہی تھی کہ اس کے شوہر کے مرنے کی خبر آگئی تو اس نے چراغ بجھادیا اور کہنے لگی کہ اس تیل میں اب ہمارے کچھ لوگ شریک ہو گئے ہیں۔

آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مومن خواتین تقویٰ اور طہارت کے کس مقام پر تھیں، پہلی خاتون گوندھے ہوئے آٹے کو چھوڑ دیتی ہے، اور دوسری جلتے ہوئے

چراغ کو بجھا دیتی ہے کیونکہ شوہر کے وفات سے اس میں ایک گونہ ورثاء کا بھی حق ہو جاتا ہے تو انھیں اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کے مال میں سے بغیر اجازت کے استعمال اور تصرف نہ ہو جائے۔ اس لئے انھوں نے اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کی وجہ سے اس کا استعمال ترک کر دیا۔

کیا یہ ورع و تقویٰ کی عالی مثال خواتین نہیں ہیں، کیا آپ بھی ان پر ہیز گار و دیندار خواتین کی طرح نہیں ہونا چاہتیں؟

(۸) ام عطیہؓ اور ربیع بنت معوذہؓ کا ایمان و شجاعت :

حضرت ام عطیہ انصاریہ اور حضرت ربیع بنت معوذہ عفرآء رضی اللہ عنہما فرماتیں ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے تو لوگوں کی خدمت اور ان کے لئے کھانا تیار کرتے تھے اور پانی پلایا کرتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتے تھے، اور مریضوں کی دیکھ بھال اور مقتولین اور مجروحین کو مدینہ منتقل کیا کرتے تھے۔

یہ کونسا ایمان و ایقان تھا جو ان خواتین کو اپنے گھروں سے نکال کر میدان جہاد میں لاکھڑا کرتا تھا جہاں وہ اپنی اولاد اور اہل خانہ اور مال اور دولت سے دور ہو کر مجاہدین کی پشت پناہی کرتیں، مریضوں اور زخمیوں کی تیمارداری اور مرہم پٹی کرتیں اور ان کے کھانے و پینے کا انتظام کرتیں، اور مقتولین اور مجروحین کو میدان جنگ سے اٹھا کر مدینہ منورہ منتقل کرتیں تھیں۔ اس طرح صحابیات پاکیزہ و طاہرہ صحابیات تھیں۔

لیکن موجودہ دور میں فسق و فجور کے علمبرداروں نے عورتوں کو ان کے گھروں سے بے پردہ اور بے حیاء کر کے باہر نکال دیا اور انہیں فوجی کیمپوں میں داخل کر دیا تاکہ وہ ان کو اپنی ہوا و ہوس کا نشانہ بنائیں اور انہیں مختلف ملازمتوں پر شرطی، قاضی بنا کر بٹھادیا تاکہ ان سے لطف اندوز ہوں اللہ تعالیٰ ان کو نامراد کرے۔

خاتون اسلام آپ کیوں نہیں ان خواتین اسلام کی ایمان و یقین اور شجاعت و عفت میں تقلید کرتیں، اور بازاری اور بے حیاء اور بے پردہ عورتوں سے براءت ظاہر کرتیں۔

(۹) ام البنین کا جو دو کرم:

ام البنین جو خلیفہ عبدالعزیز بن مروان کی صاحبزادی اور خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کی ہمشیرہ ہیں جو دو کرم میں ضرب المثل تھیں۔ وہ فرمایا کرتی تھیں: ہر شخص کا ایک شوق ہوتا ہے اور میرا شوق و مشغلہ داد و دہش ہے۔ اور یہ خاتون ہر جمعہ کے دن ایک غلام آزاد کرتیں تھیں، اور ایک شہسوار اللہ کے راستے میں بھیجا کرتی تھیں، اور وہ یہ فرمایا کرتی تھیں "تف ہو کنجوسی پر، اگر وہ کوئی کرتا ہوتا تو میں اسے کبھی زیب تن نہ کرتی۔ اور اگر وہ راستہ ہوتا تو اس پر کبھی نہ چلتی۔

خاتون اسلام آپ اس تابعی خاتون کے ان اقوال و اعمال میں غور و فکر کیجئے: میرا مشغلہ جو دو و سخا ہے، تف ہے بخل پر اگر وہ کوئی پیرہن ہوتا تو میں اسے

کبھی نہ پہنتی اور اگر کوئی راستہ ہوتا تو اس پر کبھی نہ چلتی۔ آپ بھی اس خاتون جنت کے صفات و عادات اختیار کرنے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان صفات عالیہ سے مقصد فرمادے۔ ان اللہ علی کل شیءء قدیر۔

(۱۰) ام سفیانؓ ثوری کا حلم اور خشیت:

حضرت سفیان ثوری کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے سفیان سے جب وہ طالب علم تھے فرمایا: بیٹے تو طلب علم میں مشغول رہو میں تمہاری کفالت سوت کات کر کرتی رہو گی۔

انہیں طلب علم کے لئے فارغ اور یکسو اور کام و کالج سے بے فکر کر دینا چاہتی تھیں۔ ان سے مزید فرماتی ہیں: بیٹے جب تم دس حرف لکھ لیا کرو تو دیکھو تمہارے اندر زیادہ شوق پیدا ہوا کہ نہیں (ان کی مراد زیادتی نور اور زیادتی خوف و خشیت تھی) اگر تم زیادتی نہ محسوس کرو تو سمجھو کہ یہ علم تمہیں نفع بخش نہیں ہوگا۔

آپ حضرت سفیان ثوری کی والدہ کی فکر و نظر کا جائزہ لیجئے ان کا خیال ہے کہ علم کی وجہ سے دل میں نور اور خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے، اگر یہ خوف و خشیت پائی جاتی ہے تو علم نافع ہے ورنہ تو "علمی کہ رہ حق نہ نماید جھالت است" کا مصداق ہے، اور انسان کے لئے وبال جان و نقصان وہ ہے۔

ملاحظہ کیجئے انہوں نے کس طرح محنت و مشقت سے سوت کات کر اپنے

لڑکے کی پرورش اور طلب علم کے لئے فارغ کر دیا تھا، آپ بھی ان کا اسوہ اختیار کیجئے، اور جائزہ لیجئے کہ یہ علم آپ کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت اور شوق و رغبت پیدا کر رہا ہے کہ نہیں؟ ان پاکیزہ و پاک طینت خواتین کا موجودہ دور کی عورتوں سے جو اسکولوں اور ملازمتوں میں بھری پڑی ہیں، مقابلہ کیجئے آپ کو اندازہ ہوگا ان خواتین اسلام کی طرح بننے کا کسی کو شوق و جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔

خاتمہ

گیارہ نصیحتیں:

خاتون اسلام آخر میں ہم آپ کی خدمت میں گیارہ قیمتی نصیحتیں پیش کر رہے ہیں؛ آپ ان پر عمل پیرا ہو کر سعادت دارین حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور زیر نظر کتاب کا مطالعہ اور اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

(۱) توحید باری تعالیٰ اختیار کرنا:

صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور قرآن کریم اور سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو کچھ ثابت ہے اسے مضبوطی سے پکڑیے۔

(۲) شرک سے اجتناب کرنا:

عقائد اور عبادت میں شرک سے اجتناب کیجئے کیونکہ شرک سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔

(۳) بدعت سے اجتناب کرنا:

عقائد اور عبادات میں بدعات سے اجتناب کیجئے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعتی کا انجام جہنم ہے۔

(۴) نماز کی حفاظت کرنا :

نمازوں کی پوری طرح پابندی کیجئے، کیونکہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ دوسرے اعمال کی مزید پابندی کرتا ہے اور جو کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ دوسرے اعمال میں زیادہ کوتاہی کرتا ہے۔

نماز کی ادائیگی میں ٹھہرات اور طمینت اور اعتدال اور خشوع و خضوع کا پورا خیال رکھئے، اور اس کو اول وقت میں ادا کیجئے، کیونکہ جب بندے کی نماز درست ہوتی ہے تو تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں اور اگر نماز فاسد ہوتی ہے تو تمام اعمال فاسد ہو جاتے ہیں۔

(۵) شوہر کی اطاعت کرنا :

اگر شوہر ہو تو اس کی فرمانبرداری اختیار کیجئے، اس کے کسی حکم کو نہ ٹالئے اور اس کی نافرمانی نہ کیجئے، تا آنکہ کسی معصیت کا حکم دے۔

(۶) عفت و عصمت کی حفاظت :

شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عفت و عصمت اور اس کے مال کی حفاظت کیجئے۔

(۷) پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت :
اپنے پڑوسیوں کیساتھ حسن سلوک کیجئے اور ان سے برائیوں کو دفع کیجئے۔

(۸) خانہ نشین ہونا :
خانہ نشین رہئے اور صرف بوقت ضرورت گھر سے باہر قدم رکھئے اور جب گھر سے باہر نکلئے تو اچھی طرح سے چہرے اور ہاتھوں کے پردے کیساتھ لکھئے۔

(۹) والدین کے حقوق کی رعایت :
والدین کیساتھ حسن سلوک کیجئے اور ان کو قولی و فعلی کسبِ طہ کی تکلیف نہ پہنچائیے، اور جب تک وہ نیکی و بھلائی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کیجئے اور جب برائیوں کا حکم دیں تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔

(۱۰) اولاد کی تربیت :
اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا پوری طرح خیال رکھئے اور انہیں سچائی، نفاذت، اچھے قول و فعل، حسن اخلاق اور تہذیب و تمدن کی تعلیم دیجئے، اور جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم، اور جب دس ۱۰ سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے پر تنبیہ کیجئے اور ان کے بستر الگ کر دیجئے۔

(۱۱) ذکر اللہ وصدقہ کرنا:

ذکر اللہ وصدقہ و خیرات کثرت سے کیجئے۔ ذکر اللہ کی تفصیلات اسی کتاب میں بیان ہو چکی ہے آپ وہاں اس کا مطالعہ کر لیجئے، صدقہ و خیرات یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زائد مال جس کی آپ کو اور شوہر اور اولاد کو حاجت نہیں ہے، اگرچہ وہ کم سے کم ہو فقراء اور محتاجوں اور رفاہی کاموں میں خرچ کیجئے، کیونکہ صدقہ و خیرات برے مواقع سے محفوظ رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مصیبت سے محفوظ رکھے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔

الحمد لله أولاً وأخراً وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

تمام شد ۱۴۱۶/۶/۲۰ھ

منامہ بحرین،

ترجمہ - سعید احمد قمر الزمان ندوی

فہرست مضامین

۳	تمہید
۱۲	مقدمہ
۱۲	ایک ضروری و اہم انتباہ
۱۷	خاتونِ اسلام کا عقیدہ
۲۷	فرشتوں پر ایمان
۳۱	کتابوں و رسولوں پر ایمان
۳۳	یومِ آخرت پر ایمان
۳۸	قضاء و قدر پر ایمان
۴۰	ایمان بالقضاء و القدر کے فوائد
۴۱	خاتونِ اسلام کا اسلام
۴۲	ارکانِ الاسلام
۴۵	عقائدِ اسلام
۵۳	قولی عبادتیں

۵۸	فعلی عبادتیں
۵۹	وہ افعال جن کا ترک کرنا عبادت ہے
۶۲	خاتونِ اسلام کا احسان
۶۶	طہارت کا بیان
۷۲	وضو کا طریقہ
۷۳	غسل کا طریقہ
۷۵	تیمم کا بیان
۷۷	حیض و نفاس کے مسائل
۷۷	حیض
۸۱	نفاس
۸۲	ممنوعاتِ حیض و نفاس
۸۴	نماز کا بیان
۸۴	شرائطِ نماز
۸۸	ارکانِ نماز
۸۸	فرائضِ نماز
۸۹	واجباتِ نماز، اور اس کی موکدہ سنتیں

۹۱ مستحبات نماز، اور غیر موکدہ سنتیں
۹۳ نماز کے بعد کی سنتیں
۹۴ سجدہ سہو کا بیان
۹۶ طریقہ نماز
۹۹ مفسداتِ نماز
۱۰۰ مکروہاتِ نماز
۱۰۳ اوقاتِ نماز
۱۰۴ قضاءِ نماز
۱۰۶ اقسامِ نماز
۱۰۸ نمازِ جمعہ کا
۱۰۹ نمازِ جماعت
۱۱۰ نمازِ مسافر
۱۱۱ نمازِ مریض
۱۱۲ احکامِ میت، اور نمازِ جنازہ
۱۱۶ زکاۃ کا بیان
۱۱۶ مسائلِ زکاۃ

۱۱۹	جانوروں کی زکاۃ
۱۱۷	زیورات کی زکاۃ
۱۱۹	وجوب زکاۃ کے شرائط
۱۲۰	زکاۃ کے مصارف
۱۲۱	صدقات
۱۲۳	روزہ
۱۲۴	روزے کی قسمیں
۱۲۶	ممنوع و مکروہ روزے
۱۲۷	روزے کے ارکان
۱۲۸	روزے کی سنتیں
۱۲۹	روزے کے مستحبات
۱۲۹	روزے کے مفسدات
۱۳۰	روزے کے مکروہات
۱۳۱	روزے کے مباحات
۱۳۲	روزہ توڑ دینے کا حکم
۱۳۳	اعتکاف رمضان

۱۳۳	صدقہ ء فطر
۱۳۵	حج اور عمرہ کا بیان
۱۳۵	وجوب حج و عمرہ کے شرائط
۱۳۶	حج و عمرہ کے ارکان
۱۳۶	حج کے واجبات
۱۳۸	ممنوعات احرام
۱۳۹	فضائل حج و عمرہ
۱۴۱	حج و عمرہ کرنے کا طریقہ
۱۴۱	حج کرنے کا طریقہ
۱۴۲	عمرہ کرنے کا طریقہ
۱۴۵	خاتون اسلام کے واجبات
۱۵۱	خاتون اسلام کے آداب
۱۵۶	خاتون اسلام کے اخلاق
۱۶۵	خاتون اسلام کی خصوصیات
۱۷۵	عورتوں اور مردوں میں فرق
۱۸۰	خاتون اسلام کے حقوق

۱۸۷ شوہر پر بیوی کے حقوق
۱۹۲ خاتون اسلام کی خوبیاں
۱۹۹ خاتون اسلام کے لئے اسوہ حسنہ
۱۹۹ حضرت سارہ کا توسل
۲۰۱ حضرت ہاجرہ کا توکل
۲۰۲ حضرت حنہ زوجہ عمران کی نذر والتجاء
۲۰۲ حضرت خدیجہؓ کا کمال عقل و دین
۲۰۶ حضرت فاطمہؓ کی حیاء و صبر جمیل
۲۰۷ حضرت عائشہؓ کا علم و زہد
۲۱۰ چند گمنام خواتین کا تقویٰ
۲۱۱ ام عطیہ اور ربیع معوذہ کا ایمان و شجاعت
۲۱۲ ام النبین کا جود و کرم
۲۱۳ ام سفیان ثوریؓ کا حلم اور خشیت
۲۱۵ خاتمہ (گیارہ نصیحتیں)
۲۱۹ فہرست مضامین



المرأة المسلمة

تأليف فضيلة الشيخ
أبو بكر بن جابر الجزائري

ترجمة للأردنية
سعيد أحمد قمر الزمان

حقوق الطبع ميسرة لكل مسلم يريد توزيعه لوجه الله
أما من أراد بيعه فعليه الإتصال بالمكتب هاتف: ٤٣٣٠٨٨٨ (أربعة خطوط)

هذه الطبعة
تمت بإشراف المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد
بالبديعة والصناعية الجديدة



المرأة المسلمة

تأليف فضيلة الشيخ

أبو بكر بن جابر الجزائري

ترجمة للأردنية

سعيد أحمد قمر الزمان

سنة الطبع ١٤١٩هـ

طبع على نفقة أحد المحسنين
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين